

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَدَّاول

بَابُ اول

جسمانی تعلیم کی تعریف و اہمیت

(Definition & Importance of Physical Education)

جسمانی تعلیم کی تعریف:

- جسمانی تعلیم کامل تعلیمی عمل کا جز و کامل ہے اور یہ وہ میدانی عمل ہے جس کا دائرہ کاران خاص جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے، جو اس مقصد کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ جذب باتی، وحشی، سماجی اور جسمانی طور پر محنت مند شہری بنانے میں مدد و معادن ثابت ہوں۔ چارلس بوچ (Charles Butcher)۔
- جسمانی تعلیم، علم کا وہ حصہ ہے جو ہر سے عضلات کی حرکات اور ان سے متعلق رو عمل سے وابستہ ہے۔ بی پیش (J.B. Nash)۔
- جسمانی تعلیم، تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے انسان کی کامل نشوونما سے ہے۔
- جسمانی تعلیم ان تپردیوں کا مجموعہ ہے جو کسی فرد و واحد میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جن کا تجوہ حركاتی سرگرمیاں ہیں روزالینڈ کسیدی (Rosaland Cassidy)۔
- جسمانی تعلیم میں اسی منتخب سرگرمیوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ جن سے انسانی طرزِ عمل کے بنانے میں بالیدگی اور وحشی نشوونما کے نقشہ پورے ہوتے ہیں۔ جان دیوی (John Dewey)۔
- جسمانی تعلیم پورے تعلیمی عمل کا لازمی حصہ ہے اور اس کا مقصد جسمانی، وحشی، جذب باتی اور معاشرتی طور پر محنت مند شہری بیدا کرنا ہے۔

جسمانی تعلیم کی اہمیت:

انسان کو ابتدائی آفرینش سے ہی جسمانی اقدار، سرگرمیوں کا احساس تھا۔ زمانہ قدیم میں (تعلیم کی ابتدائی سطح) جسمانی سرگرمیاں معاشرے کے خصوصی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ کبھی یہ کار آمد اور مضید مقاصد کے حصول میں کام آتی تھیں اور کبھی بہجان اور سطحی خواہشات کی تحلیل کے لیے۔ پہلے پہل انسان جسمانی توانائی اپنی بھاکی جدوجہد میں، حصول خواراک کے لیے اور پھر خطر ماحول سے چھاؤ کے لیے استعمال کرتا تھا اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار عموماً اختراعی سرگرمیوں اور ہم آہنگ حرکات کے ذریعے کرتا تھا۔ غالباً اذین جنگی تیاریوں میں اسی جسمانی اقدار مثلاً حصول قوت، قوت برداشت، ہمارتی تام اور تیزگائی کو اپناتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ قدیم روم کی عظیم تہذیب فرست کے لحاظ کے نقلہ استعمال کی وجہ سے اپنے الناک انجام کر پہنچی۔ ان کے ہاں جسمانی

اور ذاتی انجھاط اس لیے رہنا ہوا کہ وہ بے عملی کا ڈکار ہو گئے اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے تھے۔ دور حاضر میں تہذیب و تمدن کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا ہے اس لیے یہ سوال ذہن میں آبھرتا ہے کہ کیا بھی ہمیں اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جسمانی توانائی اور موزوںیت کے پروگراموں کی ضرورت ہے؟ بالخصوص اس لیے بھی کہ خوارک حاصل کرنے میں چھداں دشواری پیش نہیں آتی اور جنگلیں بھی کم اور طویل و قفقے کے بعد ہوتی ہیں۔ نیز درخت کث جانے کے باعث جنگلات وحشی جانوروں اور دیگر خطرات سے پاک ہو گئے ہیں اور معاشرے نے شہریت کے سلسلے میں قوی اور مین الاقوامی قوانین وضع کر لیے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل وجوہ کے باعث موجودہ دور میں جسمانی تعلیم کی پہلی کی نسبت کہیں زیادہ ضرورت ہے۔

- 1- دور حاضر میں انسان بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب پیدل چلنے کی بجائے، ہر جگہ سواری میں سفر کرتا ہے۔ کھڑا رہنے کی بجائے بیٹھا رہتا ہے اور جسمانی سرگرمیوں میں خود حصہ لینے کی بجائے بعض تماشائی بننا ہی کافی سمجھتا ہے۔
- 2- سائنس کی تحقیقات کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی خود کار مشینی آلات انسان کا بہت سا کام کرنے لگیں گے، اگر یہ دعویٰ درست ہو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہری تو ناتی اور خود کار مشینوں کی بدولت حاصل کردہ فاتح وقت کیسے گزارے گا؟ تنفسی مشاغل میں سیتما، سلی و ڈن، ریلی یو، موڑ کار کی سواری اور ایسے ہی دیگر مشاغل انسان کو ان سب جسمانی فوائد سے محروم کر سکتے ہیں جو مشینی اور سے پہلے اسے مسرت ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اب تھلیٰ اور جسمانی نوعیت کے مشاغل کی بجائے ہمارے ہم تحریک کاری اور پریشان کن تھریات اور دیگر زیادی مسائل کی آمادگاہ بننے جا رہے ہیں۔ ایک طاقتور قوم کی تھکیل کے لیے معاشرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس امر کا خیال رکھے کہ اس کے افراد اپنے فارغ اوقات صحبت مدد مشاغل اور فلاحی کاموں میں صرف کریں۔
- 3- دور جدید کی مہدیب سوسائٹی میں پیشہ جراحت عموماً تو عمر افزاد کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر معمولی حرکات کے ذریعے اپنی برتری کا مظاہرہ کرنا پڑا جے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثیر چوری، ڈاکے، لوٹ مار، دھوکہ بازی اور اقدامات علی ہیں جو احمد میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت حال سے دوچار قوم اپنے حالات کی اصلاح کے لیے پولیس کی تعداد بڑھاتی ہے یا تو کی وسائل کو تھلی خانوں اور بھائیاتی اداروں پر صرف کرتی ہے۔
- 4- موجودہ دور کے انسان کے لیے اس کے گرد و پیش کے حالات اسے آفرت، پریشانی اور خوف سے دوچار کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے نہیں زیادہ مشاہرے کے حصوں اور مالی بہتری کی جدوجہد میں بھی شامل ہے اس لیے وہ اپنے اعصابی نظام اور جذبات کو ہم آہنگ کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے حالانکہ اس کے جذبات اور اعصابی نظام زمانہ قدیم کے انسان جیسے ہیں۔

عبد قدیم میں انسان کا سب سے بڑا فرش اپنے گھر آنے کے لیے خوارک میا کرنا اور مختلف عنابر سے چھاؤ کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کا پیشہ وقت یہ وہ خانہ مشاغل میں گزرتا تھا۔ ان مشاغل کی بدولت اس کا جسمانی اور اعصابی نظام ہم آہنگ ہو جاتا تھا۔ اس کے برکھیں آن کل انسان پتھی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ عمادل کے عارض، گردے کی بیماریاں، فانچ اور معدے کے ناسور کا ستایا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ آسانی سے اعصابی مکروہی کا نشان بن جاتا ہے۔

پیشہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آج کل مندرجہ بالا قسم کی بیماریوں میں نہیں زیادہ لوگ جتنا ہو رہے ہیں اور جب تک جدید یہودو باش میں وہی تاؤ کم نہیں ہوتا زندگی دو بھر ہے گی۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ متوازن اور موزوں منصوبہ بندی کے تحت جسمانی تدریسی

کے لائق عمل مرتب کیے جائیں اور انسان کی صحت کے انتظام کو روکا جائے۔ نتیجایا کہا جاسکتا ہے کہ جسمانی تعلیم بیک وقت سائنس بھی ہے اور فن بھی۔ حرکت کے قوانین، جسمانی اعضا کے فعل اور ان کے رو عمل کے اثرات، جسمانی تعلیم کو سائنس کا درجہ دیتے ہیں اور کھل، اخراجی سرگرمیاں، جمناسک اور حرکات کا ماہراں عمل اسے فن کا درجہ دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طلب کو معیاری قامت، جسمانی سرگرمیوں میں مہارت، اعضا اور پھلوں کے صحت مندانہ افعال، یکاریوں سے بچاؤ اور تنفسی سرگرمیوں کی اہمیت ذہن نشین کرائی جائے کیونکہ یہ جسمانی تعلیم کا حصہ ہیں، اگر ایسا ہوتا فرد پر یقیناً صحت مندانہ اڑ ہو گا۔ یہ بات ٹوپی خاطر وہی چاہیے کہ کھل، اور ورزش فقط سکول اور کالج کے طالب علموں کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ ضعیف العز سے قطع نظر سب افراد کی زندگی کا معمول ہوتا چاہیے، کیونکہ ان کی بدولت جسمانی قوت میں ترقی، شہرت کا شہور اور فارغ العحات کا صحت مندانہ استعمال ظہور پر ہوتا ہے۔



جسمانی تعلیم کے اغراض و مقاصد

(Aims & Objectives of Physical Education)

مہذب مالک میں مکرین نے جسمانی تعلیم سے متعلق بہت سے تجربات اور تحقیقات کیں اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جسمانی تعلیم علم کا ضروری حصہ ہے۔ چنانچہ جسمانی سرگرمیاں نہ صرف قلبی پروگرام کا اہم جزو قرار دی گئیں بلکہ اس کا دائرہ کار اور اغراض و مقاصد بھی متین کیے گئے ہیں۔

تمام علوم کا بنیادی مقصد فرد کو بھرپور زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے لیکن جسمانی تعلیم کے مقاصد نسبتاً زیادہ واضح ہیں کیونکہ یہ فرد کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذبائی نشوونما کے ذریعے فرد کو معاشرے کا اہم رکن بناتی ہے اور اپنے جواز کو ثابت کرنے کے لیے ان مقاصد کی محیل کرتی ہے جس سے ایک فرد کی نشوونما کے سارے پہلو آجاگر ہوتے ہیں۔

داررہ کار:

جسمانی تعلیم میں بنیادی پہلو حرکت ہے جو کہ نہ صرف پیدائش سے موت تک چلتی ہے بلکہ یماری اور مخدوشی میں بھی اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ حرکاتی اصول کے لیے تمام مکاتب کے پروگرام۔ تفریحی مرکز اور تمام شفا غانے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جسمانی تعلیم کا تعلق خود کا اور یا مقصد حرکت سے ہے جو محنت اور مشقت سے کی جاتی ہے۔

غرض و غایت:

1- خود کار میشوں کی ایجاد:

زمانہ جمیعت میں میشوں کی ایجادات نہ ہونے کے برابر تھیں اور تمام لوگ جسمانی اعضا ہی کو حرکت میں لا کر زندگی کے سب کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے انسان کو نہ تو جسمانی مشاغل کی ضرورت ارجحت تھی اور نہ ہی ان کے پاس فالتو وقت تھا لیکن آج کا ذرور میں دن دو رہ کرت اور جسمانی مشاغل نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے مسلسل جسمانی کارکردگی مبتاثر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں جسمانی تعلیم نہایت مفید اور کارگر ٹھابت ہوتی ہے۔

2- ذہنی اور جسمانی نشوونما:

جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے انسان کی ذہنی و جسمانی طور پر متوازن نشوونما ہوتی ہے اور وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں احسن طریقے سے ترقی کی منازل طے کر لیتا ہے۔

قانون کا اسرائیم:

جسمانی تعلیم کھیل کے ذریعے ایسے موقع پیدا کرتی ہے جس سے قواعد و ضوابط کی پابندی اور قانون کا احراام کرنا کھلاڑی کے لیے لازمی ہن جاتا ہے بلکہ کھلاڑی میں قواعد و ضوابط کی پابندی اور قانون کے احراام کی عادت پڑ جاتی ہے چنانچہ عملی زندگی میں وہ اس عادت کی بدولت ایک اچھا شہری ثابت ہوتا ہے۔

4- قدرتی صلاحیتوں کا آجاگر ہونا:

قدرتی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں اور اکثر لوگ ان سے باخبر نہیں ہوتے، چنانچہ وہ ان صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاسکتے، لیکن جسمانی تعلیم کے مشاہل میں حصہ لے کر انسان ان صلاحیتوں کو آجاگر کر کے معاشرے میں اپنا موثر مقام پیدا کر لیتے ہیں۔

5- بے راہ روی کا ازالہ:

موجودہ دور میں معاشرہ بری طرح برائیوں میں گمراہ ہوا ہے، ان حالات میں ایسی سرگرمیاں معاشرے کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔

6- بیماریوں سے بچاؤ:

جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے لوگ مختلف چیزیں بیماریوں میں بیٹھا ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ترقی یافتہ مالک کی طرح جسمانی تعلیم کو نظر انہا زندگیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہی مالک میں جسمانی تعلیم کو میدیں یکل کی تعلیم کے بعد دوسرا درجہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیل مشہور ہے کہ جس ملک اور قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں اس کے مقابل غیر آباد ہوتے ہیں اور جس کے کھیل کے میدان غیر آباد ہوتے ہیں اس کے مقابل آباد ہوتے ہیں۔

مقداد:

تمام انسانوں کو اپنے اجسام کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرکت وہ ذریعہ ہے جس سے جسمانی تعلیم اپنے مقاصد کو حصول مل میں لاتی ہے۔ زندگی کے ہر موز پر انسان بھاگنے، چلنے، لٹکنے، چڑھنے، گوئنے، پھکنے اور چھلانگ لگانے میں مصروف نظر آتا ہے اور سبی کھلات خوشی، تفریخ، جسمانی مضبوطی، سماجی و جذباتی سکون، بات چیت اور انسان کی کھل نشود نہما اور اس کی ترقی میں مددیتی ہیں۔ حرکت جسمانی تعلیم کی بنیاد ہے اور حرکت کا عمل کرواری تعمیر میں معاونت کا سبب ہتا ہے۔

جسمانی تعلیم کے مقاصد سے مراد مثالی و تصویراتی مقاصد ہیں جو آخر کار نتیجے کے طور پر حاصل ہوتے ہیں مثمن جسمانی سرگرمیوں کا مقصد زندگی کی ترقی میں حصہ لے کی شرکت ہے جس میں حرکت اور اس سے متعلق رد عمل اور کارگزاری شامل ہو جو کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں (یہاں ہمارا مقصد مثمن جسمانی سرگرمیوں سے ہے) جسمانی تعلیم انہی مقاصد کا چنانڈ کرتی ہے۔ جس کا انسانی رویے میں مستقل تہذیبی سے تعلق ہو اور مناسب تعلیم، تجربے سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

- جسمانی سرگرمیوں سے جسم کا تمام نظام بہتر بنانا تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہر ہر کرے۔

-II

جسم اور زہن کی توازن نشوونما سے شخصیت کا ارتقا۔

-III

پسمندہ اور کمزور لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا نیز دیانت داری، ہمدردی اور رواداری وغیرہ کا مظاہرہ کرنا۔

-IV

ثبت سرگرمیوں کی بدولت فرست کے اوقات کو منفید اور با مقصد بنانا۔

-V

طلب کو منصوبہ بندی اور مریوط "پروگرام" کے ذریعے سے رہنمائی و تربیت کے موقع فراہم کرتی ہے۔

-VI

سامانی و جذبائی تربیت کرنا۔

-VII

اجتیاعی کوششوں اور اجتیاعی وقاداری کی تربیت کرنا۔

-VIII

تعلیم کے ذریعے حافظتی بیادوں پر صحت منداشت عادات پیدا کرنا۔

-IX

شخصیت و کردار کی نشوونما اجتیاعی کوشش، اجتیاعی وقاداری کا راستہ دھاننا۔

-X

جسمانی نشوونما اور جسمانی قوت بڑھانے کا موقع فراہم کرنا۔

-XI

جذبات کی تربیت کے ذریعے ایک کھلاڑی کو جذبائی اخبار کا سلیقہ سکھانا۔

-XII

جسمانی سرگرمیوں میں شرکت کی بدولت گھٹے ہوئے جذبات سے نجات حاصل کرنا۔

-XIII

دینی نشوونما کے طریقہ کار سے آگاہی، عمدہ حکمت عملی اور کھلیوں کے ذریعے نشوونما کے عمل کو بڑھانا۔

-XIV

جبوری عمل میں معاونت، کلاس روم بلکہ تمام کاموں میں طلبہ کی شرکت اور منصوبہ بندی میں مددوینا۔

-XV

اصالی ورزشوں کے ذریعے قائمی تقاض کی اصلاح کرنا۔

-XVI

اجتیاعی سرگرمیوں کی بدولت جذبہ تعاون کو فروخت دینا۔

-XVII

پیشوں اور اعساب کی مناسب نشوونما کرنا۔

-XVIII

اجتیاعی اور باوقار شہری بنانے میں معاونت کرنا۔

اسلام اور جسمانی تعلیم

اسلامی معاشرے میں بھی ہر فرد کی ذہنی، جسمانی، سماجی اور عملی زندگی کی تمام تر ذاتی واریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص حدود میں رہ کر سرگرمیوں کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام اسلامی عبادات میں حرکت ایک اہم جزو ہے۔ دورانِ نماز قیام، رکوع، سجده، تقدہ کی مخصوص حرکات کو مدد نظر رکھا جاتا ہے۔

احکامِ الٰہی اور احادیث مبارکے سے بھی یہ شواہد ملتے ہیں جیسا کہ سورہ بقرۃ میں فرمانِ الٰہی ہے۔ (آیت نمبر 247)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اس کو تم پر رکزیدہ کیا کیونکہ وہ مقتل و علم اور جسمانی قوت و طاقت میں بہتر ہے"

فرمانِ نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ

"طاقوتِ مومن کمزور مومن سے بڑا ہے"

"تمہارے جسم کا قم پر جن ہے"

-1

-2

جسمانی سرگرمیوں کا دارہ کار

(الف) تعلیمی جمناسٹک (Educational Gymnastic)

جمناسٹک کی اصطلاح یونانی لفظ Gymnazain سے لی گئی ہے جس کے لفظی معنی برہنہ حالت کے ہیں۔ اس لفظی مnasبت سے ورزش کرنے کے کمرے اہل کو Gymnasium کہتے ہیں۔ یونانیوں کے نزدیک برہنہ حالت میں مختلف حرکات یا کرچ کرنے سے ان کے دیوبی یا دیوبی خوش ہوتے ہیں۔ اسی مnasبت سے جمناسٹک کو (Naked Art) عربیاں فن کا نام دیا گیا تھا۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان حرکات کی افادیت بڑھتی گئی اور انہیں کھیلوں کی تیاری خصوصاً تحلیکس کی بہیادی مہارتوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور بعد ازاں ان حرکات کو جمناسٹک کا نام دیا گیا۔

جمناسٹک انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جسمانی تربیت کی ورزشیں ہیں۔ یعنی روزمرہ کی وہ حرکات جو انسان کی خاص مقصد کے تحت سرانجام دیتا ہے (مثلاً طاقت، پیک اور قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے) لیکن جدید دور میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی تحقیق نے انسانی حرکات کے حرکات کو بھی مد نظر رکھا اور ان حرکات کو سائنسی اور علمی درجہ دے دیا گیا ہے۔

جدید دور میں جمناسٹک کے ساتھ لفظ تعلیم کے اضافے نے اس کے مضموم کو ہریدار جاگر کر دیا۔ چنانچہ علمی جمناسٹک ایسی حرکات کو کہا جائے لگا جو سوچ بھگ کر کسی خاص مقصد سے کی جائیں اور جو انسان میں طاقت، پیک اور قوت برداشت کے ساتھ پھرستی، عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی اور ذہنی توازن پیدا کرے تاکہ کوئی بھی با مقصد اور محک زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔

عمدہ قامت اور پیکت حرکات کا دار و دارہ بہت حد تک مضبوط اور پچھدار جسم پر ہوتا ہے اگر عضلات یا لمحے کمزور ہوں تو جسم متوازن اور سہول ہونے کی بجائے بے ڈول ہو جاتا ہے۔ لہذا تعلیمی جمناسٹک پر توجہ دے کر بچوں کی نشوونما ایسی سرگرمیوں کے ذریعے کی جائے تاکہ قامت درست رہے اور جسم میں پختی پیدا ہو اور وہ ہر کام پھرستی اور مستعدی سے کر سکیں۔


اہل یونان کی قدیم تہذیب میں جمناسٹک کی اصطلاح مستعمل تھی۔ زمانہ قدیم میں یونانیوں نے یہ سب سے پہلے جسمانی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اسکی ورزش گاہیں تعمیر کیں جہاں لڑکے بڑکیاں، مرد اور خواتین ورزش کے ذریعے اپنے جسم کی ہم آہنگی اور توانائی کی مہارتوں حاصل کرتے تھے، لیکن یونانیوں میں یہ اصطلاح بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوئی تھی اور اس میں کھیل کی تمام سرگرمیاں شامل ہوتی تھیں۔

جرمکن لوگوں نے جب جمناسٹک کی ورزشیں شروع کیں تو انہیوں نے ورزشی آلات بھی استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ ولپچپ بنا یا جائے۔ تینی جمناسٹک کی کئی حصے کی ورزشیں یہیں صدی میں انگلستان اور پورپ کے دیگر ممالک میں رانگ ہو گیں کیونکہ وہ لوگ Drill (Drill) اور جسمانی تربیت (Physical Training) کی بجائے جمناسٹک کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ سکولوں میں ایسی کرتی سرگرمیوں کے ذریعے افراد کے جسم کو تربیت دے کر زیادہ تحد درست بنانا مقصود تھا جو نکل اس سے پہلے دہان کھڑے ہونے کی پوزیشن سے آزادانہ ورزشیں عام طور پر سکولوں میں ساز و سماں کے بغیر کروائی

2- جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے والی سرگرمیاں (Body Movements)

(الف) جوڑوں کی ورزشیں: یعنی دو سرگرمیاں جو جوڑوں کو زیادہ سے زیادہ حرکت میں لا سکیں، عضلات کو مضبوط بنا سکیں اور توازن قائم رکھنے میں مدد دیں، مثلاً اچھلنا، کوونا، اچھل کر پاؤں سامنے، چیچپے اور پہلوکی طرف رکھنا، رسی کوونا، ستارہ کوونا، گیند کوونا اور زخم بدلتے ہوئے تمدن تمدن دفعہ گیند کوونا وغیرہ۔


(ب) ٹانگوں کی ورزشیں: ٹانگوں کے بل جھانا، انخنا، اکڑوں بینچ کر آگے بینچ کوونا، چت لیٹ کر ناگیں انخانا اور یچے لے جانا، پہلوں پر کھڑے ہونا وغیرہ۔



ایک ہاتھ سے ساتھی کو کھینچنا

(ج) کندھے اور بازوں کی ورزشیں: بازو کو کہنی پر موڑنا اور باہر کی طرف پھیلانا (دو زانوں پیشے ہوئے) بازو دائرے کی شکل میں گھمانا، بازو اور پہلوں کی طرف انخانا، ساتھی کو ایک ہاتھ سے کھینچنا، بازو پھیلانا، جھانا، موڑنا وغیرہ۔

(د) دھڑکے بالائی حصے کی ورزشیں: ان میں سر اور گردن بھی شامل ہیں۔ سر آگے، یچھے اور پہلو کو گانا، جھکانا، دبانا، موڑنا (پاؤں کھول کر کھڑے ہوئے) دھڑکے سامنے جھکانا اور تالی بجانا، (اوندھے لیٹھے ہوئے) دھڑکے اور پاؤں انخانا اور گردن کو یچھے کی طرف دبانا، لگاتار گفتگو کے ساتھ دھڑکے سامنے جھکانا اور گردن کو یچھے کی طرف دبانا اور دھڑکے سیدھا کرنا، (چوپائی کھڑے ہوئے) ناگ اور پر جھلانا۔




(چوپائی کھڑے ہوئے) ناگ اور پر جھلانا



(چت لیئے) ناٹھیں اور پڑھانا

- (و) پہنچ کی ورزشیں: (چت لیئے ہوئے) ناٹھیں اور پڑھانا، (چوپا یا کھڑے ہوئے) باری باری دو توں ناٹھوں کو چھپے پھینانا، (کھلے پاؤں کھڑے ہوئے) جھک کر سامنے زمین چھوٹنا، دو توں پاؤں کے درمیان بھی کلپشت سے زمین کو چھوٹنا۔



بھیلی کی پشت سے دو توں پاؤں کے درمیان کی زمین کو چھوٹنا

- (و) پہلوکی ورزشیں: (کھلے پاؤں کھڑے ہوئے) دھڑ پہلوکو جھکاتے ہوئے ہاتھوں سے شنے کو چھوٹنا، (ہازو پہلوؤں کی



ہاتھ سے ٹافٹخنے کو باہر کی جانب چھوٹنا

طرف پھیلا کر کھلے پاؤں کھڑے ہوئے) وہڑا کیسی موز نا، (باز و اپر آنھے ہوئے) وہڑ پہلو کو گرا نا، وہڑ چھانا، (آخری پالی مار کر بیٹھے ہوئے) کان سے خالق گھٹنا چھونا، (کھلے پاؤں کھڑے ہوئے) وہڑ پہلو کو جھکا کر خالق ہاتھ سے شنے کو باہر کی جانب چھو نا۔


(ز) توازن کی ورزشیں: (پیچوں کے بل بیٹھے ہوئے) آگے پیچے اچھنا کو دنا۔
(ایک ناگ پر کھڑے ہوئے) دوسرا گھٹنا آنھا کرو تو انہوں ہاتھوں سے ناگ کو تھامنا، پیچوں کے بل لکیر پر چلانا، ایڑیوں کے بل چلانا، بازو سانے چھلاتے ہوئے ایک ناگ آنھا، بیچ پر چڑھ کر آگے پیچے اور پہلو کی طرف قدم لینا۔



تک پر چلانا

(ح) لٹکنے کی ورزشیں (Hanging Exercises) سے لٹکنے ہوئے:-
”بیم“ (Beam) سے لٹکنے ہوئے:-

- (i) جسم کو آگے پیچے یاد کیں باہمیں چھلانا۔
- (ii) پہلو کی طرف ہاتھوں کے بل چلانا۔
- (iii) جسم کو ”بیم“ کے اوپر کی طرف نمودری تک آنھا نا۔
- (iv) (رسہ کھڑے ہوئے) اور پر جھننا، پیچے آترنا یا چھو نا۔



سامنے کی جانب فلاپازی لگانا

(ط) جسم کو چکدار اور سرگرمیاں (Agility Exercises) والی سرگرمیاں:

بنیادی طور پر ورزشیں چنانیں: پیچوں اور فرش پر کروائی جاتی ہیں تاکہ جسم میں کامیابی، ہم آنکھیں اور چک پیدا کی جاسکے۔ ان میں مدد و جذب، سرگرمیاں شامل کی جاتی ہیں۔ سامنے کی طرف فلاپازی (Forward Roll)، پیچے کی طرف فلاپازی (Backward Roll)،

ہاتھوں کے مل پیسے جیسا چکر یا پہنچ چکر (Cart Wheel)۔ دونوں پاؤں سے کوکر کتابازی



پہنچ چکر

(Dive & Roll) اور "ہیڈ پر ٹنگ" (Head Spring) لڑکوں کے لیے موزوں ہیں۔ مخصوص نشان پر کھڑے ہو کر آگے چلا گئے لگاتا (Standing Long Jump)، "تیغ پر خرگوش کوڈ" (Bunny Hop)، متوازی لکھروں پر سے زینے کو، "مینڈر کوڈ" (Frog Jump)، سامنے اور پیچے کی طرف فلا بازی لگاتا (Forward & Backward Roll)، ہاتھوں کے مل کھڑا ہوتا (Dive and Roll)، ہر کے مل کھڑا ہوتا (Hand Stand)، خود رکھ کر فلا بازی لگاتا (Head Stand)۔

3۔ گروہی سرگرمیاں (Group Activities)

یہ سرگرمیاں عموماً مختلف آلات پر (جنبیں مختص کردہ بجھوں پر رکھا جاتا ہے) یا ان کے بغیر چار، پانچ یا چھ کے گروہ میں کروائی جاتی ہیں۔ ہر گروہ مخصوص شدہ سرگرمی کے لئے ان "سرکش" (Circuits) کو ہماری باری استعمال کرتا ہے۔ ایسی حرکات خود اعتمادی، ہم آہنگی، سبک رفتاری، توہانی اور جرأت پیدا کرنے کا باعث ہتی ہیں۔

ان سرگرمیوں میں کھلاڑی کو اپنی توجہ چار باتوں پر مرکوز رکھنا ہوتی ہے:

(الف) طریقہ (ب) عمل (ج) پرواز/اڑان (د) زمین پر واپسی

گروہی سرگرمیوں میں افٹی اور چکور محرا بیوں کے علاوہ رسم پر چڑھتا، اترنا، اونچا اچھل کر "ولنگ ہارس" (Vaulting Horse) کو نالگیں دونوں پاؤں کے اندر یا باہر رکھتے ہوئے پار کرنا (Through and Astride)، افٹی بار (Horizontal Bar) اور متوازی بار (Parallel Bar) پر آگے پیچھے جھوننا صرف لڑکوں کے لیے ہے۔

4۔ سکون، اختتام (Warm Down)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسی اس سرگرمیاں جو کہ تنفس اور دواریں خون کے نظام کو جوش اور تیزی پیدا کرنے والی کھیلوں کے بعد

اصل حالت میں لاکس اور تسلیم دیں۔ یہ پہ سکون خاتمے کے لیے کی جاتی ہیں، کونک ایسی سرگرمیوں کا تسلیم انہیں اڑھا ہوتا ہے۔ ان میں آہستہ آہستہ چلتا یادوڑتا یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تینی رفتار سے جسم میں چک پیدا کرنے والی سرگرمیوں کا اعادہ کرنا، تلقیں پھیلا کر بیٹھنا، لیٹنا وغیرہ شامل ہیں۔

تفریجی مشاغل:

فرصت کے اوقات (Leisure Time)

لیکلیسر (Leisure) لاٹنی لاطینی "لایسر" (Licere) سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی فارغ ہونے کے ہیں۔ "اوٹ رومنی" (Ott Romney) کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد منجب کردہ وقت کا وہ حصہ ہے جو ضروریات زندگی کے حصول سے میرا ہوا اور ہر کسی شخص کا اپنی پسند کے مطابق استعمال میں لانے کے لیے میرا ہو۔ اس نے ایک دن کو مندرجہ ذیل تین بڑے حصول میں تقسیم کیا ہے:

(الف) حیاتیائی ضروریات: یہ وہ وقت ہے جو وجہ واسطی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے مثلاً کھانا، سونا، شخصی صفائی وغیرہ یہ عرصہ تقریباً 10 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(ب) معاشری ضروریات: یہ حصول روزگار کے لیے ضروری ہے۔ یہ عرصہ تقریباً 10 گھنٹے پر مشتمل ہے (اس میں آمد و رفت بھی شامل ہے)۔

(ج) فراغت کے اوقات: ان کے علاوہ جو باقی بچتے والے تقریباً چار گھنٹے ہیں یہ ہر شخص کی صواب بد پر محصر ہے کہ وہ انہیں کیسے گزارتا ہے۔

فارغ وقت (Free Time) اور فرصت کے اوقات (Leisure Time) دونوں ایک ہی نہیں۔ بلکہ فرصت کے اوقات فارغ وقت کا وہ حصہ ہے جو فرصت کے اوقات میں کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے خصوصی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ فراغت کے اوقات اور فرصت میں بھی تغیر نہیں کرتے حالانکہ فرصت کے اوقات ایک وقت جز ہے بلکہ فرصت ایک خاص حالت (State) میں ہونا ہوتا ہے۔

"چارلس بریجٹ بل" (Charles Bright Bill) نے فرصت کے اوقات کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ وفا تو اور فارغ وقت ہے جس کے دوران کوئی شخص اپنی مرشی کے مطابق جو بھی کرنا پاہے کر سکتا ہے۔ اس طبقے بہت پہلے کہا تھا کہ فرصت ان تمام اشیاء میں سب سے افضل ہے جن کا انسان مالک ہے۔ اس وقت کے دوران وہ اپنی پسند کی کوئی چیز تخلیق کر سکتا ہے کیبل میں شامل ہو سکتا ہے یا کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے سکتا ہے جس سے اس کی خصیت میں لکھار پیدا ہو اور اسے ہنی سکون اور طہرانیت قلب حاصل ہو۔

"Thomas G. Desmond" (Thomas G. Desmond) نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فرصت کا وقت بہت اچھا وقت ہے اگر آپ اسے بھی انداز سے استعمال کرنا جانتے ہیں اور یہ ایک خوناک دشمن ہے اگر آپ اسے نامناسب طریقہ سے استعمال کریں، اگر انسان نے اسی طریقہ کی مشینی ترقی جاری رکھی تو اس کا سب سے برا مسئلہ فرصت یا فاتح وقت کے استعمال سے متعلق ہو گا۔ یہ وقت انہیں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فرصت کے اوقات میں اضافے سے پیدا شدہ اثرات معاشرے سے نہیں کیے جاسکتے بلکہ صحیح فیصلے سے بہتر اور ثابت تاریخ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

تفریح (Recreation)

یہ بھی لاطینی لفظ "ریکریر" (Recreare) سے مانو ہے جس کے معنی "نیا بنانا" کھوئی ہوئی طاقت کی بحالی، تازہ دم ہونا یا دوبارہ جنم لینا وغیرہ۔ جارج بٹلر (George Buttler) نے تفریح کی تعریف یوں کی ہے "فرصت کے اوقات میں اسکی کوئی بھی سرگرمی یا تجربہ جس میں کوئی شخص اپنی مرضی اور پندتے شامل ہو اور جس سے اسے ذاتی طور پر راحت، اطمینان اور خوشی حاصل ہو۔"

"ہرلڈ میر" (Herold Meyer) کے مطابق "تفریح فرصت کے اوقات کے ذور ان کسی بھی ایسی سرگرمی میں ارادتا شامل ہونا ہے۔ جس کی بیانی خواہش کا محرك اس سے خوشی، اطمینان اور سکون قلب حاصل کرنا ہو۔"

تفریح ان سرگرمیوں سے متعلق ہے جن میں کوئی شخص ایسے اوقات کے ذور ان شرکت کرے جو کام کے علاوہ ہوں اور وہ ان میں اپنی پندت اور مرضی سے حصے لے۔ ان سرگرمیوں میں شرکت کا محرك اس کی اندر ورنی خواہش کی محیل ہے جس سے اسے پر تکین اور سکون پرور تجربہ حاصل ہو اور اسکی جسمانی، جذباتی، سماجی اور جمالياتی ذوق کے پہلوؤں کی نشوونما میں بڑھاوا پیدا ہو۔ تفریح بھی مش مندرجہ ذیل امور سے وابستہ ہوتی ہے۔

(الف) فرمت کے اوقات: کوئی بھی تفریحی سرگرمی صرف فرصت کے اوقات میں ہی کی جانی ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر سے کام کسی شخص کی تفریح میں شامل نہیں۔

(ب) پُر لطف اور پُر تکین: ناشرکا کے لیے اس کا پُر لطف اور تکین کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس میں شامل ہونے کا محرك صرف ذاتی خوشی، سکون اور اطمینان ہیں نہ کہ مادی فائدے۔

(ج) رضا کارانہ شرکت: کسی بھی تفریحی سرگرمی میں شرکت کسی خواہش کے تحت نہیں کی جائی جا سکے بلکہ افرادی طور پر برادرست شامل ہونا ضروری ہے۔

(د) تعمیری: تفریح کا تعمیری اور ثابت اثرات کا حامل ہونا ضروری ہے نہ کہ یہ شرکا کے لیے جسمانی اور سماجی طور پر مضر ہو۔ یہ نہ صرف فرد واحد کے لیے جامع اور صحت مند ہے بلکہ اس معاشرہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے جس کا وہ حصہ ہے۔

(ه) حیاتیاتی ضروریات سے مبترا رہنے والی ضروریات مثلاً کھانا پینا، سونا وغیرہ کے علاوہ ہے، اگر کوئی شخص "یکنک" پر جائے جہاں کھانا بھی دیا جائے تو اس کے ساتھ سماجی تفریحی محیل اور دوسری اسکی گروہی سرگرمیوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔

تفریح کے مقاصد:

- انسان کی تخلیقی اطباء کی محیل کا بیانیادی ذریعہ ہے۔
- مکمل صحت میں بڑھاوا پیدا کرنا ہے (جسمانی، جذباتی اور سماجی)۔
- ذور حاضر میں انسانی زندگی پر پڑنے والے تباہیا کھچاؤ کو دور کرنے کا موثر ترین ذریعہ ہے۔
- اجتماعی اور ذاتی طرز زندگی کو بہتر اور سوہنائے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شہری بنانا اور جمیعت کی جزوں کو مضمبوط کرنا ہے۔
- کسی شخص کا وہ بہن جانا جس کا وہ اہل ہو۔ اس کی وضیقی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہمدردی میں کھار پیدا کرنا اور فارغ وقت کا ثابت انداز سے استعمال ہے۔

تفزیع کے ذریعے انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشوونما:

- 1 صحت کی نشوونما (Health Development):

کسی شخص کی صحت کا درود مدار بہت حد تک کام اور فرصت کے اوقات کے ذریعے انسان کی جانے والی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی جسمانی، روانی، جذبائی اور روحانی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتا ہے۔ تفریجی مشاعل کی مختلف اقسام یہی جو شرکا کی عضوی صحت میں بڑھادے کے ساتھ ساتھ کام سے پیدا شدہ تباہ سے چھکارہ حاصل کرنے میں مدد و دلچی ہیں۔ تفریجی سرگرمیاں انفرادی اور گروہی سطح پر ترتیب دی جاتی ہیں۔ جن کی بدولت بہتر سماجی تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شرکا کی صحت کے سماجی اور روحانی پہلوؤں کی نشوونما میں مدد دلچی ہے۔ (عوای تفریجی پروگرام صرف سخت محنت، معمول کے روزمرہ کے کام کا جسکی حکم اور بوریت ذریعے کے لیے ہوتے ہیں)۔

- 2 انسانی تعلقات (Human Relations):

تفزیع انسانی زندگی کو معنی خیز بنانے میں بڑی اہم ہے۔ تفریجی پروگرام میں شرکت درج ذیل خوبیوں کو اجاگر کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، مثلاً جرأت، عدل و انصاف، قوت برداشت، رواہاری، حُلِّ مزاوجی، مساوی برداشت، دیانتداری وغیرہ۔ کھیل کے ذریعے انسان یا کسی تفریجی سرگرمی میں شرکت کرنے سے شرکا کے روپے اور انہاں کی قدر میں ثابت تبدیل پیدا ہوتی ہے، مثلاً اچھے تعلقات میں بڑھاؤ، سماجی اشتراک، گروہی وقاہاری، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا وغیرہ۔ موثر اور کارآمد خاندانی تفزیع کے ذریعے اجتماعی یہاں گفتگو کی جزیں مزید مضبوط ہوں گی اور کسی خاص ادارے سے تعلق رکھنے کی یا پر انفرادی طور پر پہچانے جائیں گے۔

- 3 شہریت کی نشوونما (Civic Development):

یہ تفزیع کا ایک قابل قدر مقصد ہے جو مختلف ذریعوں سے کسی علاقے کی پوری آبادی کی نشوونما میں مدد و دلچی ہوتا ہے اور یہ کسی بھی جماعتی تفریجی مخصوصہ میں ہر خاص و عام کو رنگ، نسل، عقیدہ یا معاشری حیثیت اور مرتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرکت کے لیے آمادہ کر لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ تفریجی سرگرمیوں میں شرکت سے لوگوں کا چال چلن اور اخلاقی بہتر ہونے میں مدد دلچی ہے۔ جس کی وجہ سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے اور نوجوان نسل کے لیے ایسا سازگار ما جوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کسی تعمیری اور مضید سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں اور کسی فرد کی انفرادی نشوونما کے ساتھ ساتھ اسے کارآمد اور معزز شہری بھی بنادیتی ہے اسے کسی بھی ایسی سرگرمی میں جس کے اثرات مخفی ہوں یا اسے سماج دشمن سرگرمی کے طور پر دیکھا جاتا ہو، شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

- 4 شخصی نشوونما (Self Development):

تفزیع پروگراموں میں شرکت کی یا پر اس کی اہلیت کے مختلف پہلوؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مثلاً (الف) متوازن شخصیت کی نشوونما (ب) تحفظ کرنے کی خواہش جو ناٹک، موسیقی، رقص، فتوں لطیف وغیرہ سے پوری کی جاسکتی ہے۔ ان میں شمولیت کی مادی فائدے کے لیے بھیں کی جاتی بلکہ خوشی حاصل کرنے اور لطف اندر ہونے کی خاطر کی جاتی ہے۔ تفریجی سرگرمیوں میں شرکت کی بدولت مہارت اور ہمدردی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی پوشیدہ خوبیوں کو اجاگر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جن سے اس کی شخصیت کی بہتر اور مکمل طور پر نشوونما ہو سکتی ہے۔

تفریجی مشاغل کی اقسام:

موجودہ مشینی معاشرہ میں موثر اور کارامہ تفریج بہت ہی اہم ہے۔ ہر طرح کی تفریج سرگرم (Active) نہیں ہوتی۔ سرگرم جسمانی تفریج اپنی بیجانی خوبیوں کی وجہ سے نہایت ہی ضروری ہے۔ تفریج بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے:

(الف) غیر سرگرم تفریج (Passive Recreation)

(ب) شرکت پذیر یا سرگرم تفریج (Active Recreation)

بہت سے لوگوں میں غیر سرگرم تفریج اتنی ہی مقبول ہے جتنی ان کی جیب اجازت دیتی ہو۔ ان میں بہت سے کھیل ایسے بھی ہیں جو تمباشیوں کے لیے خاص کشش اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشینی خیز اور معز کا آمیز بھیلوں کو دیکھنے سے انسان کو دبے ہوئے چند باتیں سے چھکارا حاصل ہوتا ہے اور انھیں خوشی سے معمور کر دیتی ہیں۔ کھیل کے دوران وہ خوشی سے کوئتے، چلاتے، تالیاں بجاتے اور مختلف انداز سے اپنے دبے ہوئے چند باتیں کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرکہ علاوہ بہت ہی دوسری تفریجی سرگرمیاں ہیں جن میں ناک، موسیقی، ڈرامائی تیڈیل، مطالعہ کرنا، اٹی وی دیکھنا اور ریڈی یومنا وغیرہ، لیکن ان کے فوائد کے باوجودہ بھی ان میں اکٹھے ملنے جلنے اور حقیقی شرکت جیسی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھیل ہر شخص کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے اور کوئی بھی سرگرمی پوری طرح سے تفریج کے دائرہ کا مریں اس وقت تک شامل تصور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں کھیل کی مناسبت سے شامل نہ ہو جائے۔ خوشی اور تسلیم کی سرگرمی میں صرف شرکت کرنے سے ہی ملتی ہے کسی بھی سرگرمی کا تفریج کے دائرہ کا رکا اہل بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس میں شرکت کرنے والے شخص پر ثابت اثراں پیدا کرے، اس کی خوشی میں اضافہ کرے، اسے سکون اورطمینان مہیا کرے، لیکن بہت سے مشاغل ایسے بھی ہیں جو صرف اٹلف اندوڑی، وقت کا نئے اور وقت کو خالی کرنے کے متراوٹ ہوتے ہیں اور درحقیقت یہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتے ہیں اور اس شخص کی خوشی اور لوگوں کو دباؤ لانے کی بجائے تھکن اور اسکا ہٹ پیدا کر دیتے ہیں۔

تفریجی مشاغل بہت ہی اقسام کے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کسی خاص وقت پر کسی شخص کے لیے تفریجی سرگرمی بن جاتے ہیں جو سرگرمی ایک شخص کے لیے تفریج مہیا کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے ایسا کرنے سے قاصر ہو، یا کوئی سرگرمی کسی خاص وقت پر تفریج مہیا کرتی ہے لیکن دوسرے وقت پر ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ ہر سرگرمی کسی شخص کے لیے مختلف اوقات پر مختلف اہمیت کی حامل ہے، مثلاً ایک شخص جو جسمانی مشقت سے تھک کر پورا ہو جائے اس کے لیے خخت زوردار جسمانی تفریج کی ضرورت نہیں جبکہ ذاتی اور جدید باتی طور پر تھکا ہو انسان زیادہ سوچ پھاڑ کرنے والی سرگرمی کو پسند نہیں کرے گا۔ عام طور پر تفریج مختلف قسم کی ایک اپا کر کسی شخص کی زندگی میں توازن پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے تفریجی سرگرمیاں مختلف اقسام کی ہوئی چائیں تاکہ معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ ان تفریجی سرگرمیوں کی مندرجہ ذیل گروہ بندی کی جاسکتی ہے۔

- (i) باشاط بھیلوں
- (ii) آوت ڈور سرگرمیاں
- (iii) ناک
- (iv) فون ایفیں
- (v) موسیقی
- (vi) رقص
- (vii) فرست کے خصوصی مشغل
- (viii) رضا کارانہ خدمات
- (ix) چشم ایچس (Special Events)
- (x) متحرکات

تفریجی سرگرمیوں کا دائرہ کار صرف جسمانی سرگرمیوں تک محدود نہیں بلکہ بہت سے دوسرے مشاغل ایسے بھی ہیں جن میں لوگ فرست کے ذریعہ حصہ لیتے ہیں، لیکن کسی فرد یا گروہ کو با مقصد اور عوّز ترتیج صرف منسوبہ بندی کرده پروگرام سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل تین عناصر کا ہونا لازمی ہے:

(i) پروگرام کی نسبت سے منسوبہ بندی۔

(ii) کیولیات۔

(iii) تربیت یافت قیادت۔

اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کبھی ہوتا تفریجی پروگرام کی افادیت پر تئی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔



منظوم کھیل

(The Organized Games)

فٹ بال (Football)

"فٹ بال" یا "ساکر" (Soccer) دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے اور ساری دنیا میں اسے مختلف ایکال کی گیندوں اور طریقوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ان سب میں سے "ایسوی ایشن فٹ بال" (Association Football) یا "ساکر" زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ جس میں گیارہ مرد یا خواتین گیند کو پاؤں سے "سک" (Kick) یا "ڈریبل" (Dribble) کرتے ہوئے یا ہاتھوں اور بازوؤں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے کھیلتے ہوئے مخالف کی گول پوسٹوں کے درمیان میں اور "کراس بار" (Cross bar) کے بیچ سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل ہے اور پھوٹے قد کے کھلاڑیوں کے لیے یہاں موزوں ہے کیونکہ اس میں کارکردگی کا انحصار ان کی مہارت پر ہے نہ کہ ان کی جسمات پر۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ فٹ بال کا کھلاڑی پورے کھیل کے دوران 12 سے 16 کلو میٹر کا فاصلہ دوڑتا ہے۔ اس کھیل کی شروعات کے متعلق کوئی واضح ثبوت نہیں ملتے لیکن بہت بچوں پر اس کے ایک ساتھ کھیلے جانے کے شواہد موجود ہیں اور یہ زمانہ قدیم میں کھیلے جانے والی کھیل "بار پا شرم" (Barpastrum) کی تبدیل شدہ شکل یا اس سے مأخذ ہے جس میں ایک گیند ہے اسی گول گیند کو ہاتھوں اور پاؤں سے مار کر کھلایا جاتا تھا اور اس میں پورے کے پورے ملاقتے کی آبادی حصہ لیتی تھی۔ روی اس کھیل کو اپنے فوجیوں کو فر رکھنے کے لئے استعمال کرتے تھے اور جب انہوں نے انگلستان پر وحادا بولا تو وہ اس کھیل کو بھی اپنے ساتھ دہا لے گئے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فٹ بال اسی کھیل کی موجودہ شکل ہے اور جب انگریز فوج بیشتر پر قابض ہوئی تو یہ کھیل ان کے ذریعے یہاں بھی روشناس ہو گیا۔ شروع شروع میں انگریز فوجی آپس میں بھی کھیلا کرتے تھے اور ہندوستانی فوجی جوان اسے دیکھا کرتے تھے اس طرح رفت رفت یہ کھیل انہوں نے بھی سکھ لیا اور یہ عوام میں مقبول ہو گیا۔

کھیل کا میدان (Playing Ground)


فٹ بال کا میدان مستطیل ہونا لازمی ہے۔ جس کی "ٹچ لائنز" (Touch Lines) کی لمبائی گول لائنز (Goal Lines) سے زیادہ ہوگی۔ اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 120 میٹر (130 گز) اور کم سے کم 90 میٹر (100 گز) اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 90 میٹر (100 گز) اور کم سے کم 45 میٹر (50 گز) ہوگی۔ میں الاقوامی متابلوں میں میدان کی لمبائی 110 میٹر (120 گز) سے زیادہ اور 100 میٹر (110 گز) سے کم اور چوڑائی 75 میٹر (80 گز) سے زیادہ اور 64 میٹر (70 گز) سے کم نہیں ہوگی۔

کھیل کے میدان میں نشانات (Field Marking)

کھیل کے میدان کی حد بندی ایسی لکیروں سے کی جاتی ہے جن کی چوڑائی 12 سنتی میٹر (15 چین) سے زیادہ نہ ہو۔ اسکی لمبائی کے رخ کی لکیروں کو "ٹچ لائنز" جب کہ چوڑائی کی لکیروں کو "گول لائنز" کہتے ہیں۔ "ہاف وے لائنز" (Halfway Line) اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس کے مرکز میں "سنٹر مارک" (Centre Mark) لگایا جاتا ہے۔ "سنٹر مارک" کے گرد 15.9 میٹر (10 گز) نصف قطر کا دائرہ لگایا جاتا ہے۔ ہر کونے کی قوس یا "کارنر آرک" سے 15.9 میٹر (10 گز) کی ڈوری پر گول لائنز کے باہر کی جانب ایک نشان لگایا جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ "کارنر سک" کے دوران تمام دقاوی کھلاڑی گیند سے 15.9 میٹر

سے ۳ فاصلے پر کھڑے ہونے شایدیں۔

فت بال گراوٹل کا ناکر



”گول ایریا“ (Goal Area)

گول پوسٹ کے اندر کی سمت میں گول لائن پر 5.50 میٹر (6 گز) کے فاصلے پر 5.50 میٹر (6 گز) بھی کیسے میدان کے اندر کی طرف عموداً کھینچیں اور ان کے سروں کو گول لائن کے متوازی آپس میں ملاویں۔ یہ رقمہ $5.50 \text{ میٹر} \times 18.32 \text{ میٹر}$ (6 گز \times 20 گز) جو کہ ان تین طرف کیسے میں اور ”گول لائن“ سے بھر اہوگا۔ ”گول ایریا“ کہلاتا ہے۔

پینٹلی ایریا (Penalty Area)

گول پوسٹ کے اندر کی سمت میں گول لائن پر 16.50 میٹر (18 گز) کے فاصلے پر عموداً 16.50 میٹر (18 گز) بھی کیسے میدان کے اندر کی طرف کھینچیں اور ان کے سروں کو ”گول لائن“ کے متوازی آپس میں ملاویں۔ یہ رقمہ $16.50 \text{ میٹر} \times 40.32 \text{ میٹر}$ (18 گز \times 44 گز) جو تین طرف سے ان کیسے میں اور چوتھی طرف سے گول لائن سے بھر اہو گا۔ ”پینٹلی ایریا“ کہلاتے ہے۔ ہر ”پینٹلی ایریا“ میں ”گول لائن“ کے وسط سے اور اس کے عوام 11 میٹر (12 گز) کے فاصلے پر میدان کے اندر ایک نشان لگایا جاتا ہے جسے ”پینٹلی مارک“ (Penalty Mark) کہتے ہیں۔ پینٹلی مارک سے 15.15 میٹر (10 گز) نصف قطر کی ایک قوس پینٹلی ایریا سے باہر لگائی جائے گی تاکہ ”پینٹلی مارک“ لگائے جانے کے وقت اگر کرنے والے کھلاڑی اور دفاعی گول کیسے میں اس قوس اور ”پینٹلی ایریا“ سے باہر رہیں۔

جنہندیوں کے ڈنڈے (Flag Posts)


کھیل کے میدان میں ہر کونے پر ایک ایک جنہندی لگائی جائے گی۔ اس کے ڈنڈے کا اور پر کا سر اتوک وار ڈس ہونا چاہیے اور اس کی اونچائی 1.50 میٹر (5 فٹ) سے کم جیسی ہوئی چاہیے۔ ”باف وے لائن“ کے دونوں سروں پر، مگر ”چیلائن“ سے کم از کم 1 میٹر (1 گز) کے فاصلے پر بھی جنہندیاں لگائی جاسکتی ہیں۔

”کارنر آرک“ (Corner Arc)

کھیل کے میدان کے ہر کونے پر 1 میٹر (1 گز) نصف قطر کے ایک چوتھائی دائرے میں کے اندر لگائے جاتے ہیں۔

”گولز“ (Goals)

گول دو ٹکھیوں یا ”آپ رائٹ پوٹس“ (Upright Posts) اور ایک ”کراس بار“ پر مشتمل ہوتا ہے اور انہیں دونوں ”گول لائنز“ کے درمیان میں اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ان کے سبھی میدان کے کنوں سے ایک برابر فاصلے پر ہوں۔ ٹکھیوں کا درمیانی



فاصلہ 7.32 میٹر (8 گز) ہوتا ہے۔ "کراس بار" کی پچھی سطح کی اونچائی زمین سے 2.44 میٹر ہوگی۔ "گول پوسٹ" اور "کراس بار" کی گہرائی اور چوڑائی ایک جیسی ہی ہوئی چاہیے اور یہ کسی بھی صورت میں 12 سینٹی میٹر (5 انج) سے زیادہ نہ ہو۔ گول لائن کی چوڑائی بھی "گول پوسٹ" اور "کراس بار" کی چوڑائی کے برابر ہوئی چاہیے۔ "گول پوسٹ" اور "کراس بار" کے پیچے جال اس طرح لگائے جائیں کہ "گول کپڑہ" آزاداً حرکت کر سکے۔ گول بکھری، دھات یا کسی موزوں مادے اور کسی بھی شکل کے ہائے جا سکتے ہیں، لیکن چکور، گول، مستطیل یا یہودی وغیرہ۔ ان کا رنگ سفید ہونا لازمی ہے۔ کھلاڑیوں کی سلامتی اور حفاظت کے پیش نظر انہیں زمین میں مضبوطی سے پوسٹ کیا جائے گا۔

گیند (Ball):

یہ شکل میں گول ہے اور چہرے یا کسی موزوں مادے کا ہنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 410 گرام (14 اونصی) سے 450 گرام (16 اونصی) تک ہو سکتا ہے اور محیط 68 سینٹی میٹر (27 انج) سے لے کر 70 سینٹی میٹر (28 انج) تک ہوتا ہے۔ کھیل کے دوران صرف ریفری کی اجازت سے ہی گیند تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ دوران کھیل اگر گیند ناکارہ ہو جائے یا پھر جائے تو کھیل کا دوبارہ اجر اسی چکر پر نیا گیند دونوں ٹیکوں کے درمیان گرا کر کیا جائے گا۔

کھلاڑی (Player):

ہر ایک ٹیم میں زیادہ سے زیادہ گیارہ کھیلتے والے کھلاڑی ہوں گے۔ جن میں سے ایک گول کپڑہ ہو گا۔ حقیقی اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں ٹیکوں کے کم از کم سات کھلاڑی موجود ہوں اور کھیل اس وقت ختم کر دیا جائے گا جب کسی ٹیم کے کھلاڑی سات سے کم ہو جائیں۔

کھلاڑی تبدیل کرنا (Substitution):

بین الاقوامی فٹ بال قیذریٹن کے زیر انتظام ہونے والے ثورنہ منٹس میں ہر ٹیم کو ایک بیچ میں تین کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے مقابلوں میں ہر بیچ میں تین سے سات کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ منتظمین پر محض ہے کہ وہ کتنے کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

کھلاڑی تبدیل کرنے کا طریقہ (Substitution's Method):

تبدیل کئے جانے والے کھلاڑیوں کے نام حقیقی شروع ہونے سے پہلے تر ریفری کو دیئے جانے ضروری ہیں۔ جب اور جس کھلاڑی کو تبدیل کرنا مقصود ہو۔ ریفری کو اس امرکی اطلاع پختگی دینا لازمی ہے۔ کھلاڑی صرف اس صورت میں میدان میں داخل ہو سکتا ہے جب ریفری کھلاڑی کو اندر آنے کا اشارہ کرے۔ مقابل کھلاڑی "ہاف دے لائن" کے نزدیک سے گراونڈ میں داخل ہو گا۔ تبدیل شدہ کھلاڑی کھیل میں دوبارہ شامل نہیں کیا جاتا اور اسی کھیل کے پیشہ ذریعہ میں اس کے مقابل کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ریفری کو پختگی اطلاع دینے کے بعد ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی بطور "گول کپڑہ" تبدیل ہو سکتا ہے۔ ریفری کی اجازت کے بغیر اگر کوئی مقابل کھلاڑی کھیل کے میدان میں داخل ہو جائے یا کوئی کھلاڑی بطور گول کپڑہ تبدیل ہو جائے تو ضابطہ تکن کھلاڑی کو انداہ کرنے کے ساتھ

ساتھ پیلا کارہ بھی دکھایا جائے گا۔ اس کے بعد کھیل کا اجر اس جگہ پر گیند کو دنوں بیوں کے درمیان گرا کر کیا جائے گا۔

کھلاڑیوں کا ساز و سامان (The Players' Equipment)

کھلاڑیوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ جرسی یا قمیش، نیکر، لبی جاہیں، "شن گارڈ" (Shin Guard) اور بوٹ پہن کر کھیلیں۔ کھلاڑی کوئی ایسی چیز پہن کر کھیل میں حصہ نہیں لے گا جو دوسروں کیلئے خطرناک ہو (اس میں ہر قسم کے زیورات بھی شامل ہیں)۔ "شن گارڈ" پوری طرح جرaboں سے ڈھکے ہونے چاہئیں اور یہ بڑا، پلاسٹک یا ایسے تھی کسی موزوں مادے کے بننے ہوئے ہوں تاکہ کھلاڑی کو چوتھے سے بچا سکیں۔ گول کپڑے کے لباس کا رنگ دیگر کھلاڑیوں، ریفری اور اسٹاٹسٹ ریفری سے مختلف ہونا چاہیے۔ اس ضابطہ کی خلاف ورزی کی صورت میں جب بھی کھیل وقتی طور پر زکے تو ریفری مختلف کھلاڑی کو کھیل کے میدان سے اس وقت تک کے لیے باہر بھیج دے گا جب تک وہ اپنا پہنا و متعین کردہ ضوابط کے مطابق درست نہ کر لے۔ ایسا کھلاڑی ریفری کی اجازت کے بغیر کھیل میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں اگر ریفری کسی کھلاڑی کو متبرہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پیلا کارہ بھی دکھائے تو اس صورت میں کھیل کا اجر مخالف ٹائم یا او۔ اسٹک (Indirect Kick) سے کرے گی۔

"آفیشلز" اور ان کے فرائض (Officials: Duties):

ریفری (Referee):

ہر بھی کے لئے ایک ریفری کا تقرر ضروری ہے۔ اس کے فرائض میں کھیل کے ضوابط کو نافذ کرنا اور متنازعہ امور پر فیصلہ دینا شامل ہے۔ ریفری کا فیصلہ ناطق سمجھا جاتا ہے۔ وہ تابع ریفریوں کی مدد سے بھیج کوئی نظریں کر سکتا ہے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے وہ اس بات کی تسلی کرتا ہے کہ کھلاڑیوں کے لباس اور کھیل میں استعمال ہونے والے گیند ضوابط کے مطابق ہیں۔ وہ کھیل کے دورانیہ کے وقت کا حساب رکھے گا۔

☆ کھیل میں یہ وہی مداخلت یا تابع گارحالت کی ہے اپر کھیل کو وقتی طور پر روک سکتا ہے یا محظل کر سکتا ہے۔

☆ اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے تو وہ کھیل کو وقتی طور پر بند کر کے اسے میدان سے باہر بھیجنے کا بندوبست کرے گا، لیکن اگر کھلاڑی زیادہ زخمی نہیں ہوا تو وہ سیٹی ہجانے میں اس وقت تک تاخیر کرے گا جب تک کہ کھیل وقتی طور پر خود بخود رُک نہ جائے، لیکن اگر کسی کھلاڑی کو وہہت سے چوتھے لگ جائے یا اس کا غون بہدرہ ہو تو ابتدائی طبی امداد کیلئے جتنی بھی جلدی ممکن ہو۔ اسے کھیل کے میدان سے باہر لے جایا جائے۔

☆ ضابطہ لٹکنی کو اس وقت تک نظر انداز کرنا جاہب تک وہ سمجھ کر اس سے ضابطہ لٹکنی سے مخالف ٹائم کو فائدہ پہنچ رہا ہو لیکن اگر یہ ایسا ثابت نہ ہو پائے تو وہ اصل بے ضابطہ لٹکنی کی سزا دے گا۔

☆ ضابطہ لٹکنی کی علتی اور نویت کی ہے اپر کھلاڑی کو متبرہ کرنے کے علاوہ کھیل سے باہر بھیج دیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اس پر فوری عمل و رآمد کرے بلکہ اس میں اس وقت تک تاخیر کرنا چاہیے جب تک کہ کھیل وقتی طور پر رُک نہ جائے۔

☆ وہ کسی ایسے آفیشل کے خلاف تاویزی کا رواہی کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو اپنے فرائض بھیج انداز اور غیر جانبداری سے ادا نہ کر رہا

ہو۔ وہ اسے علاحدہ بھی کر سکتا ہے۔

*
کسی بھی ایسے واقعہ کو ہے وہ خود کچھ سپایا ہو تو وہ اسٹنٹ ریفری کے مشورہ پر عمل کر سکتا ہے۔
*
وہ کسی بھی غیر متعلق شخص کو حکیل کے میدان میں داخل ہونے نہیں دے گا۔

*
حکیل کے اختتام پر متعلق ارباب اختیار کو حکیل کی روپرث جس میں کسی کھلاڑی یا ٹیم آفیشل کو نامناسب روایتی بنا پر دی گئی سزا ایسا کوئی اہم واقعہ جو حکیل سے پہلے، ذور ان میں یا اس کے بعد پیش آیا ہو لکھ کر دے گا۔
*
ریفری کا حکیل سے متعلق فیصلہ حقیقی ہوتا ہے، تاہم حکیل کے دوبارہ اجراء سے پہلے اگر وہ محبوس کرے کہ اس کا فیصلہ حقیقت پر بنی نہیں تھا تو وہ اسے تبدیل کرنے میں با اختیار ہے۔

"اسٹنٹ ریفری" (Assistant Referee)

حکیل میں دو اسٹنٹ ریفریز مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس ایک ایک جنڈی ہوگی۔ وہ حکیل کے ذور ان سرزد ہونے والی بے خالی گیوں کی نشاندہی جنڈی کے مخصوص اشاروں سے کریں گے۔ ان کے فرائض میں مندرجہ ذیل امور میں ریفری کی معافت کرتا ہے، لیکن ریفری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسکے ہر قیطی اور شورے کو قبول کرے۔
*
گیند حکیل کے میدان سے باہر چلے جانے کی صورت میں اس امر کی نشاندہی کرنا کہ "کارز گک" "گول گک" یا "قررو ان" کس نیم نے کرتا ہے۔

*
"آف سائید" کے ضابطے کے خلاف میں "ریفری" کی مدد کرتا۔
*
ریفری کو اس امر سے مطلع کرنا کہ کوئی ٹیم کھلاڑی تبدیل کرنے کی خواہش مند ہے۔

*
حکیل کے ذور ان بد تسبیزی یا بد اخلاقی کامظاہرہ یا کسی ایسے واقعہ کی نشاندہی کرنا ہے ریفری دیکھنے پایا ہو۔
*
اگر کوئی "اسٹنٹ ریفری" حکیل میں غیر ضروری دخل دے یا بد اخلاقی کامظاہرہ کرے تو ریفری اس کو اس کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اس کے خلاف متعلق ارباب اختیار کو اس امر کی روپرث جسی کرے گا۔

حکیل کا دورانیہ (Duration of Game):

*
حکیل 45 منٹ کے دو برابر حصوں پر مشتمل ہوگا، تاہم دونوں نیمیں اور ریفری باہمی مشادرت سے حکیل کا وقت کم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا فیصلہ حکیل شروع ہونے سے پہلے ہی کیا جانا ضروری ہے۔

*
نصف وقت گزرنے پر 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ جو وقت کسی حادث، کھلاڑی کی تبدیلی، زخمی کھلاڑی کی دیکھ بھال یا کسی دوسری وجہ سے ضائع ہوا ہو، اسے اسی نصف حصہ میں شامل کیا جائے گا جس میں وہ وقت ضائع ہوا تھا۔ اس وقت کے ذورانیہ کا حصہ کرنا ریفری کی صوابہ دید پر مختصر ہوتا ہے۔

*
میچ کے اختتام یا وقت پر اگر پیٹنٹی لگنے والی ہو تو اسے پورا کرنے کے لیے وقت میں توسعہ کر دی جائے گا۔
*
اگر معمول کے وقت میں میچ کا فیصلہ نہ ہو سکے تو دو برابر اضافی وقت مزید کھیلے جائیں گے۔

کھیل کا آغاز اور دوبارہ اجرا (Start and Restart of Play)

جو نیم ناس جیت جائے اسے حق حاصل ہے کہ وہ کوئی سیست ملتے ہے، جبکہ دوسری نیم "سک آف" کے ذریعے کھیل شروع کرے گی۔

☆ نصف وقت کرنے پر قلعے کے بعد نیم اپنی اپنی سست تبدیل کر لیں گی اور جس نیم نے ناس جیتا تھا وہ دوسرے نصف حصہ میں "سک آف" سے کھیل کا آغاز کرے گی۔

☆ مندرجہ ذیل صورتوں میں کھیل کا آغاز اور دوبارہ اجرا "سک آف" سے کیا جاتا ہے۔ کھیل کے پہلے اور دوسرے نصف حصہ یا اضافی حصہ کے شروع میں اور گول ہونے پر "سک آف" سے براہ راست گول ہو سکتا ہے۔

☆ "سک آف" سے پہلے ہر ایک کھلاڑی اپنے نصف حصہ میدان میں ہو گا۔ گینہ "سنٹر مارک" پر ساکن رکھ دی جاتی ہے اور رفری کے اشارہ کے بعد "سک" سامنے کی جانب لگائی جائے گی۔

☆ سک لگانے والا کھلاڑی اگر گینہ کو کسی دوسرے کھلاڑی کے کھلنے سے پہلے خود ہی دوبارہ کھیل لے تو اس جگہ پر جہاں یہ واقع چیز آیا ہو مخالف ٹیم کو با لواط فرنی سک (Indirect Free Kick) دی جائے گی۔ سک آف کے وقت اگر کوئی اور بے ضابطی سر زد ہو جائے تو سک دوبارہ لگائی جائے گی۔

☆ سک آف لگانے والا کھلاڑی گینہ کو کسی دوسرے کھلاڑی کے کھلنے سے پہلے دوبارہ کھیل نہیں سکتا۔

☆ گول ہو جانے کی صورت میں جس نیم کے خلاف گول ہوا ہو۔ اسی نیم کا کوئی کھلاڑی کھیل کا آغاز "سک آف" سے کرے گا۔

"ٹو راپ بال" (Dropped Ball)

اگر کھیل چاری ہو اور اسے عارضی طور پر روکا جائے تو کھیل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے رفری گینہ کو اس جگہ پر دو مخالف کھلاڑیوں کے درمیان گرانے گا جہاں پر یہ کھیل روکنے کے وقت تھا۔ کھیل اس وقت چاری ہو جاتا ہے جب گینہ زمین کو بخواہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں گینہ کو دوبارہ اسی جگہ پر گرا یا جائے گا۔ جب:

- 1۔ گینہ زمین پر لگنے سے پیشتر اگر کوئی کھلاڑی اسے بخواہے۔

- 2۔ گینہ زمین پر لگنے کے بعد اگر یہ کسی کھلاڑی کے کھلنے سے پیشتر ہی گرا و ڈالے باہر چلا جائے۔

خصوصی حالات (Special Circumstances)

☆ اگر دو فانی نیم کو اپنے گول ایریا میں "فری سک" ملے تو وہ گول ایریا کے اندر کسی بھی جگہ گینہ رکھ کر سکتے ہے۔

☆ اگر حلہ آور نیم کو مخالف نیم کے گول ایریا میں سے با لواط فرنی سک ملے تو وہ "گول ایریا" کی اسی لکیر پر جو گول لائن کے متوازی ہے ٹھیک کے نزدیک سے جہاں بے ضابطی واقع ہوئی تھی گینہ رکھ کر سکتا ہے۔

☆ اگر کھیل کو اس وقت عارضی طور پر روکا جائے جب کہ گینہ "گول ایریا" کے اندر کھیل چاری ہو تو کھیل دوبارہ شروع کرنے کے لیے گینہ کو "گول ایریا" کے اسی لکیر پر جو "گول لائن" کے متوازی ہے۔ اسی جگہ کے نزدیک گرا یا جائے گا جہاں اس وقت تھا۔

گیند خارج از کھیل کب تصور ہوتی ہے:

جب گیند ہوا میں یا زمین پر کھل طور پر گول لائیا جائیں عبور کر جائے یا جب ریفری کھیل روک دے۔

گیند کا کھیل میں شمار ہوتا ہے:

کھیل کے آغاز سے اختتام تک گیند کھیل میں شمار ہوگی۔ جس میں درج ذیل حالات بھی شامل ہیں۔

☆ جب گیند ریفری یا اسٹرنٹ ریفری کو لگ کر واپس میدان میں آجائے بشرطیکہ وہ کھیل کے میدان کے اندر ہوں یا

☆ جب گیند کراس بار، گول پوسٹ یا کونے کی جھنڈیوں سے لگ کر واپس میدان میں آجائے۔

گول کب دیا جاتا ہے:

☆ جب صحیح طور پر کھیلا ہوا گیند کھل طور پر گول پوسٹ کے درمیان اور کراس بار کے نیچے سے گول لائیں کو ہوا میں یا زمین پر سے عبور کر جائے تو گول دیا جائے گا جو نیم زیادہ گول کرے گی۔ وہ جیتنی ہوتی تصور ہوگی۔ دونوں میں سے اگر کوئی نیم بھی گول نہ کر سکے یا کھیل کے اختتام پر گول کی تعداد بیساں ہو تو کھیل برابر تصور ہو گا۔ ایسے نیچے کے نیچے کے حصوں کی کھیل یا کوئی اور طریقہ کا رانپا یا جاسکتا ہے۔

"آف سائینڈ" (Off Side):

"آف سائینڈ" پوزیشن میں ہوانا بدلت خود کوئی بے ضابطی نہیں۔ کھلاڑی اس وقت "آف سائینڈ" گردانا جاتا ہے، جب دونوں کھلاڑیوں اور گیند کی نسبت ان کی گول لائیں کے زیادہ قریب ہو۔ کھلاڑی درج ذیل صورتوں میں "آف سائینڈ" تصور نہیں ہوتا۔

☆ جب وہ میدان کے اپنے حصہ میں ہو۔ یا

☆ وہ آخری دو دفائی کھلاڑیوں کے برابر اور ایک ایسی سیدھی میں ہو۔ یا

☆ اس نے گیند برادر است "گول لگ"؛ "کارزگ" یا "قمر وان" سے حاصل کی ہو۔ کھلاڑی اس وقت تک سزا کا مستحق نہیں ہو گا جب تک کہ وہ کھیل میں مداخلت نہ کرے، مختلف کھلاڑی کی کھیل میں خلل نہ ڈالے یا آف سائینڈ پوزیشن میں ہونے کا فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔

مزید: مختلف نیم کو اسی جگہ سے جہاں بے ضابطی ہو یا بواسطہ فری لگک دی جائے گی۔


کھلاڑی کے "آف سائینڈ" میں فیصلہ کن امر یہ ہے کہ کھلاڑی اس وقت کس جگہ پر تھا جب گیند کھیل گئی تھی نہ کہ اس وقت کہاں ہے جہاں اس نے گیند حاصل کی۔ آف سائینڈ کی وضاحت درج ذیل خاکے کرتے ہیں۔

نٹانات واضح کریں:


• حملہ اور کھلاڑی (الف، ب اور ج)

• دفائی کھلاڑی (د، ف اور س)


----- گیند کا راستہ




(i)- "ب آف سائید" ہے، کیونکہ 'ب' اور گول لائن کے درمیان ووچا لفین نہیں ہیں۔




(ii)- 'ب' آف سائید ہے کیونکہ 'ب' نے 'الف' سے اسی گیند حاصل کی جو سمجھے سے لگ کر بٹھی تھی، گیند کا سمجھے یا کراس بار کو لگ کر پلانہ براؤ راست پاس تصور ہوتا ہے اور اس وقت دوچا لفین 'ب' کی نسبت اپنی گول لائن کے نزدیک تر تھے۔



(iii)- 'الف' نے "کارز گک" لگائی جو کہ 'ب' نے وصول کی۔ قانون کے تحت 'ب' آف سائید نہیں ہے کیونکہ 'الف' نے براؤ راست کارز گک سے گیند حاصل کی تھیں جب 'ب' نے گول کے لیے لگ لگائی تو راستے میں اسی کے ساتھی 'ج' نے مزید گک لگا دی تو 'ج' "آف سائید" قرار دیا جائے گا کیونکہ گیند آخری مرتبہ اس کے اپنے ساتھی نے کھلی تھی اور اس وقت اس کے اور گول لائن کے درمیان ووچا لفین نہیں تھے۔



(IV)- الف گیند کو کھیلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پھر خالصین 'س' اور 'ن' کے درمیان سے گیند کو ب' کی طرف لک کر دیتا ہے۔ ب' آف سائید نہیں ہے کیونکہ جب الف نے گیند کو لک کیا تھا 'ب' پوزیشن نمبر 1، پر خالصین گیند کے پیچھے تھا اور دو خالصین اس کے اور گول لائن کے درمیان تھے۔



(V)- الف "قرد ان" کرتا ہے اور گیند براؤ راست 'ب' وصول کرتا ہے۔ ب' آف سائید نہیں ہے، حالانکہ وہ گیند سے آگے ہے اور اس کے گول لائن کے درمیان کم از کم دو خالص کھلاڑی بھی نہیں کیونکہ "قرد ان" سے براؤ راست حاصل کردہ گیند سے کھلاڑی آف سائید نہیں ہوتا۔

"فاؤلز" (Fouls)

یہ اسی بے ضابطگی یا ناشائستہ طرزِ عمل ہے جن کا مرکب ہونے کے وقت اگر کھلاڑی لاپرواہی، بے پناہ شدت یا غیر محتاط انداز کا مظاہرہ کرے تو خالص نیم کو اس جگہ پر سے بلا واسطہ "فری لک" وی جاتی ہے لیکن اگر فوائی نیم سے ان میں سے کوئی بھی فاؤل اپنے "چیتلی ای ریا" میں سرزو ہو جائے تو خالص نیم کو "چیتلی لک" وی جاتی ہے۔

☆ خالص کھلاڑی کو لک کرنا امر نایا لک کرنے کی کوشش کرنا۔ ☆ خالص کھلاڑی کو اڑ گانا یا اڑ گانے کی کوشش کرنا۔

- ☆ مخالف کو مارنا یا مارنے کی کوشش کرنا۔
- ☆ مخالف پر خطرناک طریقہ سے جملہ کرنا۔
- ☆ مخالف کو پکڑنا۔
- ☆ گیند حاصل کرنے کی کوشش میں گیند کو کھینچنے سے پہلے مخالف کھلاڑی کو دھکایا تھا تو مخالف نے دھکیلانا۔
- ☆ گیند کو اداختہ تھا لگانا (ابتدائی گول کیپر کو اپنے "پیٹلی" میں گیند کو باتھ لگانے کی رعایت حاصل ہے)۔ اگر "گول کیپر" درج ذیل فاؤلز پر "پیٹلی ایریا" میں کرتے تو مخالف نے یہ بلواسطہ "فری گک" دی جاتی ہے:

 - ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیند کو چھوڑنے سے پہلے چار قدموں سے زیادہ قدم لے۔
 - گیند کو ایک دفعہ پھینک دینے کے بعد اور کسی دوسرے کھلاڑی کے کھینچنے سے پہلے پھر سے اسے پکڑ لے۔
 - اگر اس کے ساتھی کھلاڑی نے اداختہ گیند اسکی طرف گک کیا ہوا اور وہ اسے پکڑ لے۔
 - اپنے ساتھی کا "تمرو ان" کیا ہوا اور اس است گیند کسی دوسرے کھلاڑی کے کھینچنے سے پشتہ پکڑ لے۔
 - دیدہ و انتہاد قوت کا ضیاع کرے۔

مندرجہ ذیل فاؤلز کرنے پر بیان واسطہ فری گک دی جاتی ہے۔

- ☆ ایسا کھیل کھینچنے جسے ریفری خطرناک سمجھے۔
- ☆ مخالف کے کھیل میں جان بوجھ کر کھل جوں ہونا۔
- ☆ "گول کیپر" کو پکڑا ہوا گیند کھینچنے نہ دینا۔
- ☆ ایسا کوئی بھی اور فاؤل کرنا جس کا ذکر اور پرند کیا گیا ہو۔
- ☆ گول کیپر پر اس وقت جملہ کرنا جس وقت اسکے پاس گینڈ نہ ہو۔

تادیجی کارروائی (Cautionable Offence)

- درج ذیل سات بے ضابطہ گول پر کھلاڑی کو متبرکرنے کے ساتھ ساتھ پیلا کارڈ بھی دکھایا جاتا ہے۔
- ☆ کھلاڑی کا غیر شایان شان روپیا پہنانا۔
- ☆ زبانی یا عملی طور پر اختلاف رائے کا مظاہرہ کرنا۔
- ☆ پار بار ضابطہ شکنی کا مر جکب ہونا۔
- ☆ کھیل میں جان بوجھ کر تباخیر کرنا۔
- ☆ کھیل کے شروع میں یا "کارز گک" کے ذور ان مظلوم ابتدائی فاسطے 15.9 میٹر (10 گز) کی پرواہ نہ کرنا۔
- ☆ "ریفری" کی اجازت کے بغیر کھیل کے میدان میں داخل ہو جانا۔
- ☆ کھیل کے میدان سے جان بوجھ کر باہر چلے جانا۔

- مندرجہ ذیل "فاؤلز" کی بنا پر کھلاڑی کو سرخ رنگ کا کارڈ دکھانے کے علاوہ کھیل سے خارج کر دیا جاتا ہے:
- ☆ خلاف قاعدہ کھیل کا ذمہ دار ہونا۔
 - ☆ تشدید آمیز اور جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرنا۔
 - ☆ کھیل کے قواعد کی بار بار خلاف ورزی کرنا۔
 - ☆ مخالف کھلاڑی یا کسی دوسرے شخص پر تھوکنا۔
 - ☆ موقع "گول" کو روکنے کیلئے گیند کو ہاتھ سے پکڑ لینا (یہ ضابطہ "گول کیپر" پر اپنے "پیٹلی ایریا" میں لا گوئیں ہوتا)۔

☆ بدزبانی، ہمیں گلوق باتوں آئیں آئیں رہو پائیں۔

☆ کھلاڑی کو دوسرا بار منظہ کیا جانا۔

"فری گک" (Free Kicks) :

یہ حکم کی ہوتی ہے۔

- i. بلا واسطہ (Indirect) - ii. بالواسطہ (Direct)

ا۔ بلا واسطہ فری گک (Direct Free Kick) :

اس سے گک کیا ہوا گیند اگر بر اور است مخالف کے گول میں چلا جائے تو گول شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کھلاڑی اپنے ہی گول میں بھیج دے تو خالق نیم کو "کارز گک" دی جاتی ہے۔

ii. بالواسطہ فری گک (Indirect Free Kick) :

اس گک سے پیشتر بیرونی اپنا بازو اٹھا کر اس کا اشارہ دیتا ہے۔ وہ اپنا بازو و اسی حالت میں اس وقت تک رکھتا ہے جب تک کہ گک نہیں جاتی اور گیند کسی دوسرے کھلاڑی سے چھوٹے جائے کاکھیں میں نہ رہے۔

بالواسطہ "فری گک" سے اس وقت تک گول نہیں ہو سکتا جب تک کہ گیند کو گول میں داخل ہونے سے پیشتر کسی دوسرے کھلاڑی نے چھوٹے لیا ہو، لیکن اگر اس گک سے بر اور است گول کر دیا جائے تو اسے شمار نہیں کیا جاتا بلکہ خالق نیم کو گول گک دی جاتی ہے، اگر اس گک کے ذریعے بر اور است گول اپنے ہی گول میں کر دیا جائے تو کارز گک دی جاتی ہے۔

دقائقی نیم کا اپنے پیشی ایریا میں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ "فری گک" کرنا:

☆ جب تک گیند کو گک کیا نہیں جاتا تمام خالق کھلاڑی "پیشی ایریا" سے باہر گر گیند سے کم از کم 9.15 میٹر (10 گز) کے فاصلے پر رہیں گے۔ گیند اس وقت کھیل میں تصور ہو گا جب یہ پیشی ایریا سے باہر چلا جائے۔

☆ "گول ایریا" میں سے کی جانے والی فری گک کسی بھی جگہ گیند کو رکھ کر لگائی جاسکتی ہے۔

حملہ آور نیم کا بالواسطہ "فری گک" کرنا:

تمام خالق کھلاڑی گیند سے 9.15 میٹر (10 گز) کے فاصلے پر ہوں گے۔ مساویے جب کہ وہ اپنے گول کے اندر گول لائیں پر کھڑے ہوں۔ جو نئی گیند حرکت کرتا ہے تو کھیل میں تصور ہو جاتا ہے۔ جب گول ایریا میں سے گک لگائی جائے تو گیند کو "گول ایریا" کی اس لکیر پر جو "گول لائیں" کے متوازنی ہے اور اس جگہ کے نزدیک سے جہاں بے ضابطی ہوئی ہو تو کہ کہ گک لگائی جاتی ہے۔

☆ "فری گک" لگانے کے وقت اگر خالق کھلاڑی 9.15 میٹر (10 گز) سے کم فاصلے پر ہو تو گک دوبارہ لگوائی جائے گی۔

☆ گک کرنے والا کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کے گیند کو کھینٹے سے پیشتر اسے دوبارہ کھیل لے تو اگر کھلاڑی اسکی بے ضابطی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کی خالق نیم کو بلا واسطہ فری گک دی جائے گی اور اگر یہی بے ضابطی اس نیم کے اپنے "پیشی ایریا" میں ہو تو "پیشی ایریا" کل "دی جاتی ہے۔

☆ "فری گک" لگانے کے بعد اگر گول کیپر جان بوجھ کر دوسرے کھلاڑیوں کے کھینٹے سے پیشتر خود ہی گیند کو کھیل لے اور اگر یہ

بے ضابطگی اسکے اپنے پیشی ایریا میں ہوئی ہوتا اس جگہ سے بالا۔ طرفی گک دی جاتی ہے۔

"پینٹلی گک (Penalty Kick) :-"

جب بھی کوئی نیم اور دیے ہوئے 10 فاؤٹز میں سے کسی بھی قاول کی مرکب پائی جائے تو اس کے خلاف پینٹلی گک دی جاتی ہے۔ پینٹلی گک بنا واسط "فری گک" کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ لہذا اس سے برادرست گول ہو سکتا ہے، اگر نصف، پورے یا اضافی کھیل کا وقت ختم ہو جائے تو بھی اسے تکل کرنے کیلئے مزید وقت دیا جاتا ہے۔ پینٹلی گک کیلئے لینڈ "پینٹلی مارک" پر رکھا جاتا ہے۔ گک کرنے والے کھلاڑی اور دفاعی گول کپھ کے علاوہ باقی تمام کھلاڑی "پینٹلی ایریا" سے باہر لیکن میدان کے اندر اور گیند سے کم از کم 9.15 میٹر (10 گز) کے فاصلے پر ہوں گے۔

☆ دفاعی گول کپھ اس وقت تک گک کرنے والے کے سامنے کی جانب پتھر کر کے کھرا رہے گا جب تک کہ گک لگ دے جائے۔ جب دونوں کھلاڑی تیار ہو جائیں تو ریفری گک کرنے کا اشارہ کرے گا۔ گک کرنے والا گیند کو صرف سامنے کی جانب ہی گک کر سکتا ہے اور وہ اسے دوبارہ اس وقت تک کھیل نہیں سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلاڑی اسے کھیل نہ لے، اگر گک کے دوران گک کرنے والے سے کوئی بے ضابطگی ہو جائے اور گیند گول میں چلا جائے تو گک دوبارہ لگوائی جائے گی لیکن اگر گول نہ ہو تو گک دوبارہ نہیں لگوائی جائے گی۔

☆ اگر گول کپھ کسی بے ضابطگی کا مرکب ہو اور گول ہو جائے تو اسے شمار کیا جائے گا لیکن اگر گول ہونے نہ پائے تو گک دوبارہ لگوائی جائے گی۔

☆ اگر گک کرنے والے کا ساتھی کھلاڑی "پینٹلی ایریا" میں داخل ہو جائے یا وہ "پینٹلی مارک" سے کم فاصلے پر چلا جائے اور گول ہو جائے تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اور گک دوبارہ لگوائی جائے گی لیکن اگر گیند گول میں نہ جائے تو گک دوبارہ نہیں لگوائی جائے گی لیکن اگر گک بے ضابطگی دفاعی نیم کے کسی کھلاڑی سے سرزد ہو جائے اور گول ہو جائے تو اسے مان لیا جائے گا لیکن اگر گول نہ ہونے پائے تو گک دوبارہ لگوائی جائے گی۔

"تھرو ان" (Throw In)

یہ کھیل کے دوبارہ اجرا کا ایک طریقہ ہے۔ "تھرو ان" سے برادرست گول نہیں کیا جاسکتا۔

☆ جب گیند کھل طور پر ہوائیں یا زمین پر "ٹھ لائیں" کو پار کر جائے تو آخری بار گیند کھینٹنے والے کھلاڑی کی خلاف نیم کو اسی مقام سے جہاں سے گیند باہر ہجتی تھی "تھرو ان" کو دی جائے گی۔



"تھرو ان"

"تحر و ان" کرنے کا طریقہ:

"تحر و ان" کرنے والے کھلاڑی کا چہرہ کھیل کے میدان کی طرف ہوگا۔

* کھلاڑی کے دلوں پاؤں پر لائن یا اس کے باہر میں سے لگے ہوئے ہوں۔

* "تحر و ان" کرتے وقت کھلاڑی دلوں پر ٹھوں سے گیند کو سر کے اوپر یا اس کے بیچے سے ہی پھینکنے کا مجاز ہے اور وہ اسے اس وقت تک دوبارہ کھیل نہیں سکتا جب تک کہ اسے کوئی دوسرا کھلاڑی کھیل نہ لے۔

* جوئی گیند کھیل کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کھیل میں تصور ہوتا ہے۔

"تحر و ان" کے دوران بے ضابطی:

* اگر "تحر و ان" کرنے والا کھلاڑی گیند کو کسی دوسرا کھلاڑی کے کھیلنے سے پہلے خود ہی کھیل لے تو خلاف ٹیم کو بلا واسطہ فری گک دی جائے گی، لیکن اگر یہ بے ضابطی کھلاڑی کے اپنے "پینٹلی ایریا" میں ہو جائے تو پینٹلی گک دی جاتی ہے۔

* اگر "تحر و ان" کرنے والے کو اس کا خلاف کھلاڑی "تحر و ان" کرنے نہ دے یا اسکی راہ میں بے چاہاں ہو تو اس کا یہ طرز عمل کھلاڑی کے غیر شایان شان قاول کے زمرے میں آتا ہے۔ جس کی بنابر اسے منزہ کرنے کے ساتھ ساتھ پہلا کارڈ بھی دکھایا جاتا ہے۔

* "تحر و ان" کے دوران کسی اور بے ضابطی پر خلاف ٹیم کو اسی جگہ سے "تحر و ان" دی جائے گی۔

"گول گک" (Goal Kick):

یہ بھی کھیل شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سے براہ راست گول صرف خلاف ٹیم کے خلاف کیا جاسکتا ہے۔ جب گیند حمل آور ٹیم کے کھلاڑی سے ہوا میں یا زمین پر "گول لائن" (مساوی) "گول پوسٹ اور" کراس بار" کے درمیان سے (کوکھل طور پر عبور کر جائے تو دفاقتی ٹیم کو گول گک دی جاتی ہے۔ جسے دفاقتی ٹیم کا کوئی کھلاڑی اپنے "گول ایریا" میں کسی بھی جگہ پر گیند رکھ کر گک لاسکتا ہے۔ گول گک لئے کے بعد گیند اس وقت تک کھیل میں تصور نہیں ہوتا جب تک کہ "پینٹلی ایریا" سے باہر چلانے جائے۔ بصورت دیگر "گول گک" دوبارہ لگائی جائے گی۔ "گول گک" لگانے والا کھلاڑی گیند کو اس وقت تک دوبارہ کھیل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا کھلاڑی اسے کھیل نہ لے۔ بے ضابطی کی صورت میں خلاف ٹیم کو اسی جگہ سے بالواسطہ فری گک دی جائے گی۔ لیکن اگر کھلاڑی ایسے گیند کو ادا کھیل لیتا ہے تو اس صورت میں بالواسطہ فری گک دی جاتی ہے اور اگر یہی بے ضابطی اس کھلاڑی سے اپنے "پینٹلی ایریا" میں ہو جائے تو پینٹلی گک دی جاتی ہے، اگر گول کیپر خود گول گک لگائے اور یہی بے ضابطی اس بالترتیب اس سے سرزد ہو جائیں تو پہلی صورت حال میں بالواسطہ فری گک، دوسرا میں بالواسطہ فری گک جبکہ تیسرا میں بالواسطہ فری گک دی جائے گا۔

"کارز گک" (Corner Kick)

یہ بھی کھیل دوبارہ شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کارز گک سے براور است گول صرف خالف ٹیم کے خلاف ہی کیا جاسکتا ہے۔ جب دفاعی ٹیم کے کسی کھلاڑی سے چوکر گیند ہوا میں یا زمین پر گول لائیں (سوائے "گول پوسٹ اور کراس بار کے درمیان میں سے) کو کمل طور پر عبور کر جائے تو خالف ٹیم کو کارز گک دی جاتی ہے۔ "کارز گک" میں گیند کو اس "کارز آرک" (Corner Arc) کے اندر ساکن رکھ کر لگائی جاتی ہے۔ جس کے نزدیک سے گیند نے "گول لائیں" کو عبور کیا تھا۔ گک کے ذریان کارز کی جھنڈی بٹھائی نہیں چلتی۔ اس وقت تمام خالف کھلاڑی گیند سے کم از کم 15.9 میٹر (10 گز) کی ذوری پر ہوں گے۔ گک کرنے والا کھلاڑی گیند کو اس وقت تک دوبارہ کھیل نہیں سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلاڑی اسے کھیل نہ لے۔ اس شابطہ کی خلاف ورزی پر خالف ٹیم کو اسی جگہ پر سے جہاں ضابطہ ٹھنی ہوئی تھی پا لواست۔ "فری گک" دی جاتی ہے، اگر وہ کھلاڑی یہ ضابطہ ٹھنی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پا لواست۔ "فری گک" دی جائے گی لیکن اگر بھی بے ضابطہ ٹھنی کے اپنے "پینٹلی ایریا" میں ہو تو پینٹلی گک دی جائے گی۔ اس کے علاوہ "کارز گک" کے ذریان کسی بھی ضابطہ ٹھنی پر گک دوبارہ لکوانی جائے گی۔

"پینٹلی مارک" (Penalty Mark) سے گک کرنا:

کسی ایسے نور نامہ میں جس میں ہر ہیچ کا فیصلہ ہونا ضروری ہو۔ کسی بھی ایسے بھی کے نتائج کے حصول کے لئے جو معمول کے وقت یا دو برابر اضافی حصوں کے کھیل کے بعد بھی برقرار ہے "پینٹلی مارک" سے گک کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔

طریقہ کار:

- ☆ جس گول پر "لکس" لگائی جانی ہوں اسکا احتساب ریفری کرے گا اور دونوں کپتانوں کے درمیان سکا چھال کرنا س کرے گا جو ہاس جیت جائے اس کی نیم چھلی گک لگائے گی۔
- ☆ دونوں ٹیمس باری باری پانچ پانچ لکس لگائیں گی اور ان کے اختتام پر جو بھی ٹیم زیادہ گول کرنے میں کامیاب ہو جائے اسے جیتا ہوا تصور کیا جائے گا لیکن اگر پہلی پانچ لکس کے بعد بھی دونوں ٹیموں کا سکور برابر ہو یا وہ کوئی گول نہ کر سکی ہوں تو دونوں ٹیمس باری باری مزید گک اس وقت تک لگائی جائیں گی جب تک کسی ایک ٹیم کو دوسرے پر برتری حاصل نہ ہو جائے۔
- ☆ اس مقابلے میں صرف وہی کھلاڑی حصے لے سکتے ہیں جو بھی کے اختتام پر کھیل رہے تھے۔ ہر کھلاڑی کو صرف ایک ہی باری دی جاتی ہے۔ جب تک کہ تمام کھلاڑی اپنی اپنی باری نہ لے لیں، مقابلے کے ذریان میں کوئی بھی کھلاڑی گول سپر کوتبدیل کر سکتا ہے۔ آفیشل، گک کرنے والا کھلاڑی اور دونوں گول سپر وہ اپنی تمام کھلاڑی میدان کے درمیانی دائرہ میں رہیں گے اور جس گول کی پہلی کاس ساختی گک لگا رہا ہو وہ "پینٹلی ایریا" اور "گول لائیں" کے سلسلہ پر کھڑا ہو گا۔

فٹ بال کی چیزوں کی مہارتوں

(1) گک کرنا: فٹ بال کو گک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

(الف) پاؤں کے پنج سے گیند کو گک کرنا۔ (ب) پاؤں کے اندر وہی حصے سے گک کرنا۔

(ج) پاؤں کی پشت پر سے گک کرنا۔



لینڈ کو گک کرنا

(الف) اس صورت میں کھلاڑی کو کچھ فاصلے سے سیدھا گیند کی طرف دوڑنا چاہیے، زمین پر رہنے والی ناگہ میں قدرے فرم ہو اور دوسرا ناگہ سخت رکھتے ہوئے پیچھے لے جا کر زور سے گیند کو گک کرے۔ بازوؤں کی حرکات قدرتی ہوں اور گک کرتے وقت جسم یا تو سامنے قدرے جھکا ہوا ہو یا سیدھا ہو۔ پاؤں کے پنجے اور گیند کا نقطہ اتصال گیند کے مرکز سے قدرے نبجا ہو۔ یہ گک بوث میکن کر بہتر انداز سے لگائی جاسکتی ہے۔

(ب) پاؤں کے اندر وہی حصے سے گک کرنے کی صورت میں کھلاڑی کے گھنے اور کوبہ میں پچ ہوتی چاہیے۔ گک کرنے والی ناگہ کا گھننا ہماری طرف مڑا ہو گا اور دوسرا ناگہ میں قدرے فرم ہو گا۔ پاؤں کا اندر وہی حصہ کمل طور پر گیند کو لگانا چاہیے۔ یہ گک قریب کے کھلاڑی کو پاس دینے کی غرض سے لگائی جاتی ہے۔ گک کرنے والی ناگہ کا گھننا سخت رہنا چاہیے اور پاؤں کو زیادہ آئندہ لے جانا چاہیے، بلکہ کوبہ کے زور سے گک لگائی جائے۔

(ج) اسی گک، عموماً پاس دینے اور خصوصاً گول کرنے کی غرض سے لگائی جاتی ہے۔ گک کرتے وقت کھلاڑی گیند کی طرف قدرے ترچا ہر ہے گا۔ گیند کے نزدیک آ کر زمین پر رہنے والی ناگہ کو گیند کے ایک طرف رکھتے ہوئے دوسرا ناگہ کو کوبہ کے جوڑ سے جلاتے ہوئے گیند کو مارےتاکہ پاؤں کے اوپر کا حصہ کمل طور پر گیند کو لگے، گک کرنے والی ناگہ کو بیساں تھی اندر وہ کا جائے بلکہ گک کرنے کے بعد آزادان طور پر سامنے ہوائیں جانے دینا چاہیے۔

(2) اڑھکتی ہوئی گیند کو روکنا:

آتی ہوئی گیند کی سیدھہ میں کھڑے ہو جائیں اور جس پاؤں سے گیند روکنا مقصود ہو اسے قدرے زمین سے آٹھا کر پیچے اور ذرا

اندر کی طرف موڑ کر گیند کرو کیتے، اس لمحے کھٹئے میں تھوڑا سا فرم ہو جو نبی گیند اور پاؤں کا ملاپ ہو تو پاؤں کو ذرا بچھے کھٹپیں ہا کر گیند رک کر پلٹے، بلکہ قابو میں رہے۔

(3) پنڈتی سے آئی ہوئی گیند کو پاؤں سے روکنا (Trapping):

اس عمل میں کھلاڑی پہلے یا اندازہ لگائے کہ گیند کہاں گرے گی۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر جس پاؤں سے گیند رکنا مقصود ہوا ہے زمین سے اتنا اونچا اٹھائے کہ گیند آسانی سے تکوے کے نیچے دب سکے۔ پھر کھلاڑی اپنا پاؤں گیند کے اوپر بیٹھنے اس وقت رکھے جب گیند زمین پر لگ کر ابھر رہی ہو، تاکہ پاؤں سے لگ کر وہیں رک کر قابو میں رہے اس کے لیے کافی مشق درکار ہے۔

(4) "تھرو ان" (Throw in):

کھلاڑی دونوں ہاتھوں سے گیند کو پکڑے اور گیند کا پنے سر کے پیچھے لے جائے۔ پاؤں خواہ کھلے رکھے یا آگے پیچھے یا اکٹے، جسم کو پیچھے کی طرف جھکائے اور گھنٹوں میں قدرے ختم دیتے ہوئے گیند سر کے اوپر سے میدان میں پھیکے۔ گیند پھیلتے وقت دونوں پاؤں کا کوئی نہ کوئی حصہ میں کوچھور باؤ اور سر دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے۔


والی بال (Volleyball)

کھیل کی خصوصیات (Characteristics of Game):

والی بال دونیوں کے مابین ایک کورٹ (Court) میں کھیلا جاتا ہے۔ جسے ایک جال دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مختلف حالات کے پیش نظر اس کھیل کی بہت سی قسمیں ہیں اس لیے یہ کھیل ہر فرد کی استعداد سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کھیل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گیند کو جال کے اوپر سے بجھ کر مقابلہ نیم کے کورٹ میں گرایا جائے اور مقابلہ کو ایسا کرنے سے روکا جائے۔ بلاکنگ (Blocking) کے ذریعے گیند کو چھو لینے (Block contact) کے علاوہ ہر نیم اپنے مقابلہ کے کورٹ میں واپس بھیجنے کے لیے اسے تین مرتبہ مارنے کا حق رکھتی ہے۔ کھیل کا آغاز سر وہ کے ذریعے گیند کو جال کے اوپر سے مقابلہ نیم کے کورٹ میں بجھ کر کیا جاتا ہے۔ ریلی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ گیند زمین کو چھوٹ لے یا کورٹ کی حدود کے باہر گرنے جائے یا کوئی نیم مناسب طریقے سے واپس بھیجنے میں ناکام ہو جائے۔ والی بال میں جو بھی نیم ریلی جسمی ہے تو اسے ایک پوائنٹ (Relylly point) مانتا ہے، اگر سر وہ وصول کرنے والی نیم ریلی جیت جائے تو اسے بھی ایک اور پوائنٹ مانتا ہے اور ساتھ ہی سر وہ کرنے والی بھی مل جاتا ہے اور اس کے کھلاڑی گھری کی سوئیوں کے رخ (Clockwise) اپنی اپنی پوزیشن سے اگلی پوزیشن پر حرکت کر جاتے ہیں۔

کھیل کا علاقہ (Playing Area):

یہ علاقہ کھیل کے کورٹ اور فری زون (Free Zone) پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہوا اور مستطیل شکل کا ہوتا ہے۔



کورٹ کی پیمائش (Measurement of Court): کورٹ کی لمبائی 18 میٹر اور چوڑائی 9 میٹر ہوگی اس کے چاروں طرف کم از کم 3 میٹر چوڑا "فری زون" ہوتا چاہیے اور اس کے فرش سے اوپر کھیلنے کے لیے کم از کم 7 میٹر کا وہیں سے خالی جگہ (Free playing space) ہوتی چاہیے۔ میں الاقوایی والی بال فینڈر ریشن کے پیچوں کے لیے استعمال ہونے والے کورٹ کی اطرافی لکیروں کے باہر کم از کم 5 میٹر اور پچھلی لکیروں سے باہر 8 میٹر چوڑا "فری زون" ہوتا چاہیے اور ان کے فرش سے اوپر کھیلنے کے لیے کم از کم 12.5 میٹر خالی جگہ ہوتی چاہیے۔

کھیلنے کی سطح (Playing Surface): "پلے ایگ کورٹ" کی صحیح ہمواریخت اور ہر قسم کی رکاوٹوں سے پاک ہوتی ہے۔ تاکہ کھلاڑیوں کو کسی قسم کی بوجت لگانے کا اندیشہ نہ ہو۔ کھر دری یا پھنسنے والی سطح پر کھیلنے کی بوجت ممنوع ہے۔ میں الاقوایی والی بال فینڈر ریشن کے پیچوں کے لیے استعمال ہونے والے کورٹ کی سطح لکڑی یا سخت چیک مادے کی بنی ہوئی ہوتا لازمی ہے اور جو میں الاقوایی والی بال فینڈر ریشن سے باقاعدہ سندید ہو۔

کورٹ کی لکیریں (Lines on the court): تمام لکیریں پانچ سینٹی میٹر چوڑی اور کورٹ کے رنگ کی نسبت بلکہ رنگ میں ہوتی چاہیں (ترنجی سفید) جو صاف اور واضح طور پر نظر آئیں۔

حد بندی لکیریں (Boundary lines): وہ لکیریں جو "کورٹ" کی لمبائی ظاہر کرتی ہیں اختتامی لکیریں یا "سینڈل لائز" اور جو چوڑائی ظاہر کرتی ہیں اختتامی لکیریں یا "بینڈ لائز" کہلاتی ہیں۔ "کورٹ" کی پیمائش میں حد بندی لکیریں بھی شامل ہیں۔

سentrال آن (Centre Line): دونوں اطرافی لکیروں کے مرکز پر ایک لکیر کھینچنی جائے گی جو "کورٹ" کو دو برابر بردار حصوں میں تقسیم کر دے گی جن کی پیمائش 9×9 میٹر ہوگی یہ سطحی لکیر یا "سentrال آن"۔ "کورٹ" کے دونوں حصوں کا حصہ شمار ہوگی۔

ایک لائن (Attack line): ہر ایک "کورٹ" میں سطحی لکیر سے 3 میٹر پیچھے کی جانب اور اس کے متوازی ایک ایک لکیر کھینچنی جائے گی۔ "سentrال آن" اور "ایک لائن" کے درمیانی علاقے کو کورٹ کا "فرنٹ زون" کہا جاتا ہے۔

زون اور ایریا (Zones & Areas):

فرنٹ زون (Front Zone):

کورٹ کے ہر دو نصف حصوں میں سطحی لکیر کے درمیان سے 3 میٹر کے فاصلے پر اس کے متوازی ایک لکیر کھینچنی جائے گی (اس پیمائش میں اس لکیر کی چوڑائی بھی شامل ہے) جسے "ایک لائن" (Attack Line) کہتے ہیں۔ کورٹ کے ہر ایک حصہ میں سطحی لکیر اور "ایک لائن" کے درمیانی علاقہ کو فرنٹ زون کہتے ہیں اور یہ اطرافی لکیروں سے باہر فری زون کے اختتام تک بڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ میں الاقوایی والی بال فینڈر ریشن کے تمام مقابلوں میں ایک لائن کو اطرافی لکیروں سے باہر 15 سینٹی میٹر لبی اور 5 سینٹی میٹر چوڑی پانچ کمی پیٹی لکیروں کو 1.75 میٹر تک اس طرح سے بڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کا آلبیں میں درمیانی فاصلہ 20 سینٹی میٹر ہو۔

سروں کرنے کا علاقہ (Service Zone): سروں زون کی چوڑائی 9 میٹر ہوتی ہے اور یہ کورٹ کی پچھلی لکیر کے پیچے ہوتا ہے (اس میں پچھلی لکیر شامل نہیں)، پہلوؤں کی جانب اس کی چوڑائی کو دو 15 سینٹی میٹر لبی لکیروں سے واضح کیا جاتا ہے۔

جو اطرافی کپر وں کی سیدھہ میں ہوتی ہیں لیکن پچھلی کپر سے 20 سینٹی میٹر پہچھے جگہ چوڑتے ہوئے لگاتی جاتی ہیں (یہ دونوں کپریں سروں زون کی چڑائی میں شامل ہیں) پہچھے کی جانب سروں زون، فری زون تک بڑھا ہوا صورہ ہوتا ہے۔

کھلاڑی تبدیل کرنے کا علاقہ (Substitution Zone): دونوں ایک لائنوں کو سکور کی میز تک بڑھا کر اس علاقہ کی حدود میں ہوتی ہیں۔

"وارم اپ" کرنے کا علاقہ (Warm up area): دونوں ٹیموں کے بیچوں کے بچھتے باہر والے کنوں کی بیرونی جانب اور فری زون سے باہر جسم کو گرانے کے لیے تقریباً 3 میٹر \times 3 میٹر کی جگہ مخصوص کی جاتی ہے۔

پنٹی ایروا (Penalty Area): 1 میٹر \times 1 میٹر کا پنٹی ایروا کا سائز اور اختتامی کپر کی سیدھہ میں 5 سینٹی میٹر چوڑی سرخ رنگ کی کپر سے واضح رحیط کیا جاتا ہے۔ جس میں دشمنوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

جال اور کھبے (Net and Posts): جال کی لمبائی 9.5 میٹر سے 10 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر ہوتی ہے (هر ایک سائیڈ بینڈ کے باہر 25 سے 50 سینٹی میٹر)۔ اس کا رنگ سیاہ اور خانے 10 مربع سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ جال کے اوپر والے کنارے پر دوہری کی ہوئی 7 سینٹی میٹر چوڑی نواری پینی گئی ہوتی ہے جس میں سے لوہے کا ہار گزار کر اسے کورٹ کی درمیانی کپر کے میں اور پر کس کر ہامدہ دیا جاتا ہے۔ اس نواری پینی کے دونوں سروں میں ایک ایک سوراخ ہوتا ہے جن میں سے رسیاں گزار کر جال کو بھبوں کے ساتھ مضبوطی سے بامدد دیا جاتا ہے تاکہ ڈھیلانہ ہوتے ہیں۔ جال کے پنچھے کنارے پر بھی اسی طرح کی نواری پینی گئی ہوتی ہے جس کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس میں سے رسی گزار کر بھبوں کے ساتھ بامدد دیا جاتا ہے۔ کورٹ کے درمیان میں جال کی اونچائی سروں کے لیے 2.43 میٹر اور خواتین کے لیے 2.24 میٹر ہوتی ہے۔ کورٹ کی دونوں اطرافی کپر وں پر جال کی بلندی ایک ہی سطح پر ہونا لازمی ہے تاہم جال اطرافی کپر وں سے درمیان کی نسبت 2 سینٹی میٹر سے زائد اونچائی ہونا چاہیے اور اسے درمیانی کپر کے اوپر عمود اٹکایا جاتا ہے۔ جال کے کھبے اطرافی کپر وں سے 50 سینٹی میٹر سے 1 میٹر کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ ان کی اونچائی 2.55 میٹر ہوتی ہے ایسے بھبوں کو ترجیح دی جاتی ہے جنہیں ضرورت کے مطابق اونچائی کیا جاسکے۔ کھبے گول اور ان کی بیرونی سطح ہموار ہوتی چاہیے۔

"سامنہ پینڈ" (Side Band): دو سفید نیتے جال کے ساتھ عمود اہر و اطرافی کپر وں کے میں اور پر لگائے جاتے ہیں جو 5 سینٹی میٹر چوڑے اور 1 میٹر لمبے اور وہ جال کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔

"انٹنیا" (Antennae): یا ایک چکدار چھڑی ہوتی ہے جو کہ 1.8 میٹر لمبی اور اس کا قطر 1 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یہ چھڑی فائر گلس (Fibre Glass) یا اسی قسم کی کسی دوسری چیز کی بنی ہوتی ہے۔ ہر سائیڈ بینڈ کے باہر کے کنارے پر ایک ایک "انٹنیا" لگایا جاتا ہے جو جال پر 80 سینٹی میٹر اور بڑھا ہوا ہوتا ہے اور 10 سینٹی میٹر چوڑی بیچوں سے جو کہ متضاد رنگوں کی ہوتی ہیں (ترجانہ سرخ اور سفید) سے نمایاں کیا جاتا ہے۔ انٹنیا جال کا حصہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ پہلوؤں کی جانب گینڈ کی گز رکاہ کو مدد و کرتے ہیں۔

"گینڈ" (Ball): یہ گول شکل کا ہوتا ہے۔ جس کا خول چکدار چڑے کا یعنی ہوا ہو گا اور جس کے اندر ریڑ یا کسی اور موزوں مادے کا بنا ہو بلڈر (Bladder) ہوتا ہے۔ اس کا میٹھ 65 سے 67 سینٹی میٹر، وزن 260 سے 280 گرام اور ایک ہی بلکے رنگ یا مختلف رنگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں الاقوامی والی بال فیڈر بیشن کے تمام مقابلوں میں استعمال ہونے والے بیچوں گینڈوں کے محیط، وزن، رنگ اور اندر وہی ہوا کے معیار میں یکساں ہیں پائی جائی چاہیے (0.30 سے 0.35 کلوگرام فی مربع سینٹی میٹر)۔

ٹیم (Team): ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 کھلاڑیوں، ایک گوچ، ایک ناپ، ایک "ٹرینر" (Trainer) اور ایک "کاپنی" پر مشتمل ہوگی۔ ٹیم کے کھلاڑیوں میں سے ایک ٹیم کپنی (Team Captain) جس کی سکورشیٹ پر باقاعدہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہر ٹیم کو حق حاصل ہے کہ ان تینی 12 کھلاڑیوں میں سے ایک امتیازی ماہر دفاعی کھلاڑی "لیبرو" (Libero) نامزد رکھتی ہے۔ کوئی میں داخل ہونے اور کھیلنے کے اہل صرف وہی کھلاڑی ہوں گے جن کے نام نہ کوہہ سکورشیٹ میں درج ہوں گے۔ گوچ اور ٹیم کپنی کے دستخطوں کے بعد ان ناموں میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جاسکتی۔ دونوں نیوں کے مقابل کھلاڑی سکورکی میز کے دونوں جانب فری زون سے باہر اپنے اپنے ٹیم پر بخشیں گے۔

لباس (Dress): پوری ٹیم کا لباس ایک ہی میکسے رنگ اور نمونے کا ہونا چاہیے۔ مساوائے لیبرو کے جس کا یوں نیمارم ہم کے دوسرا کھلاڑیوں سے مختلف ہو گا۔ کھلاڑی بنیان، نیکر، موڑے اور بریڈیا چڑھے کے تکوں والے بلکے چکلے، پکلدار اور بغیر ایڑی کے جوتے پہنیں گے۔ کھلاڑیوں کی بنیانوں کے درمیان میں سامنے اور پیچے 1 سے 18 تک نمبر لگے ہونے چاہیں جو بنیان کے رنگ سے مختلف ہوں۔ کھیل کے ذریعہ کھلاڑی کو ایسی چیزیں پہننے کی ممکنات ہے جن سے دوسرا کھلاڑیوں کو چھوٹ لگنے کا اندریشہ ہو یا وہ ان سے کسی قسم کا شخصی فائدہ حاصل کر سکے۔ کھلاڑی اپنی ذمہ داری پر عینک پہن سکتے ہیں۔ ٹیم کے کپنی کی جوی کے سامنے کے نمبر کے نیچے ایک 2 سینٹی میٹر چڑھی اور 8 سینٹی میٹر چڑھی کیکر گی ہونا ضروری ہے اور سامنے کے نمبر 15 سینٹی میٹر اور پچھلے 20 سینٹی میٹر اور نیچے ہونالاڑی ہیں۔ جو کم از کم 1 سینٹی میٹر چڑھے ہوں گے اور ان کی ننگروں کی دامیں جاب 4 سینٹی میٹر چڑھے اور 6 سینٹی میٹر اور نیچے نمبر لگے ہوں گے۔

ٹیم کے قائد (Team Leader): دونوں ٹیم کپنی اور گوچ اپنی اپنی ٹیم کے روایہ اور لفم و ضبط کے ذمہ دار ہوں گے۔ کسی بھی ٹیم کا لیبرو ٹیم کپنی نہیں ہو سکتا ہے۔

ٹیم کپنی (Team Captain):

- کھیل شروع ہونے سے پہلے سکورشیٹ پر دستخط کرتا ہے اور ناپ (سکاچھاں کر فیصلہ کرنا) کرنے میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کرتا ہے۔
- کھیل کے ذریعہ ٹیم کپنی (Game Captain) کے فرائض سرانجام دیتا ہے جب ٹیم کا کپنی کھیل میں شامل نہ ہوتا گوچ یا وہ خود کسی دوسرا کھلاڑی کو ٹیم کپنی کا کروار ادا کرنے کے لیے نامزد کرتا ہے اور وہ کھلاڑی اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا ہے جب تک کہ اسے تبدیل نہیں کر دیا جاتا ہیں ٹیم کپنی وہیں کھیل میں شامل نہیں ہو جاتا۔
- تمام کھلاڑیوں میں سے صرف گیم کپنی، وقق طور پر رکھنے کے کھیل کے ذریعہ ٹیم کپنی اول سے مخاطب ہونے کا مجاز ہے اور کسی ضابطہ پر عمل درآمد یا اس کی تشریع کے متعلق پوچھ سکتا ہے، اگر وہ اس کے کسی فیصلے کی تحریک سے مطمئن نہ ہو تو وہ فوراً ہی اس امر سے زبانی مطلع کرے گا اور کھیل کے اختتام پر وہ اس کا اندر راجح سکورشیٹ پر بھی کر سکتا ہے۔
- تمام آؤٹ یا کھلاڑی کی تبدیلی کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ کھیل کے اختتام پر وہ ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ماتھ کھیل کے نئی کی اقدامیں کے لیے سکورشیٹ پر دستخط بھی کر سکتا ہے۔

گوچ (Coach): تمام کھیل کے ذریعہ ٹیم کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ٹیم کی "شارٹنگ لائن اپ" کے لیے کھلاڑیوں کا انتساب، ان کی تبدیلیوں اور انیں بدلایات دینے کے لیے تمام آؤٹ لینا ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں اس کا ایڈٹر غیری دوم سے رہتا ہے۔ کھیل کے ہر سیٹ سے پہلے سکورشیٹ پر اپنے کھلاڑیوں کے ناموں کو خود درج کرتا ہے یا اندر راجح شدہ ناموں کی جانشی اور اس پر دستخط

کرنے کے بعد "سکور" یا ریفری دوم کو پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے ٹیم نئی (Team Bench) پر سکور کے نزدیک ترجیحتا ہے جہاں سے وہ نائم آؤٹ اور کھلاڑیوں کی تہذیبی کی درخواست کرنے کے علاوہ بھیل میں تھل ہوئے بغیر اپنی ٹیم کے نئے کے سامنے فری زون میں کھڑے ہو کر یا چل پھر کر کھلاڑیوں کو ہدایات بھی دے سکتا ہے۔

بھیل کے دوران بے ضابطگی کا سرزد ہوتا۔ "فالٹس" (Faults)

جب بھی کوئی نیم بھیل کے دوران ایسا انداز اپنالے جو بھیل کے ضوابط سے مطابقت نہ رکھتا ہو یا بصورت دیگر وہ ملے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کرے تو ریفری سٹی بجا کر اس کا اعلان کرتا ہے۔ ریفری ان بے ضابطگیوں کی سزا مندرجہ ذیل طریقہ سے تھیں کرتا ہے:

(الف) جب ایک سے زیادہ بے ضابطگیاں پکے بعد دیگر سرزد ہوں تو ان میں سے صرف سب سے پہلے ہونے والی بے ضابطگی شمار کی جاتی ہے۔

(ب) جب دو یادو سے زیادہ فالٹس مختلف کھلاڑیوں سے ایک ہی وقت پر سرزد ہوں تو پہلی دو فالٹ (Double Fault) کہلاتا ہے اور پریلی دوبارہ بھیل جائے گی۔

جب ضابطہ نہیں ریلمی ہار جاتی ہے تو:

اگر ریلمی جیتنے والی ٹیم نے سروں کی تھی 24، ایک پا انک سکور کر لیتی ہے اور ساتھ ساتھ سروں بھی ہاری رکھتی ہے، لیکن اگر ریلمی سروں وصول کرنے والی ٹیم نے بھی ہارا ہو سروں کرنے کا حق حاصل کر لیتی ہے اور اسکے سکور میں بھی ہر ایک پا انک کا اضافہ ہوتا ہے۔

سیٹ جیتنا (To win a set):

جو نیم دو پا انک کی برتری سے پہلے 25 پا انک سکور کر لیتی ہے سیٹ (ماسوئے پانچوں سیٹ کے) جیت جاتی ہے، لیکن اگر سکور (24-24) ہو جائے تو بھیل جاری رہتا ہے۔ جی کہ دو پا انک کی واضح برتری حاصل ہو جائے۔ (26-24)، (27-25)

میچ جیتنا (To win a match):

تمام میں الاؤئی مقابلے پانچ میں سے تین سیٹ جیتنے کے اصول پر کھیلے جاتے ہیں، جو نیم تین سیٹ جیت لیتی ہے۔ میچ جیتی ہوئی تصور ہوتی ہے لیکن دو دو سیٹ جیتنے پر برابری ہو جائے تو فیصلہ کن سیٹ 15 پا انک کے لیے کھیلا جائے گا جس میں بھی 2 پا انک کی برتری لازمی ہوتی ہے۔

غفلت کی ہاپنیر غیر حاضر یا نامکمل ٹیم (Defaulter and Incomplete Team):

اگر کوئی ٹیم ریفری کے کہنے کے باوجود بھی کہنے پر آمادہ ہو یا مقررہ وقت پر حاضر نہ ہو سکے تو اسے ہارا ہو اتصور کیا جائے گا اور سکور سیٹ پر میچ کا نتیجہ 0.3 غافر کیا جائے گا جب کہ ایک سیٹ کا سکور 0.25 ہو گا۔

اگر کم قابل توجیہ جو بات کے بغیر مقرر وقت پر کورٹ میں حاضر نہ ہو تو اسے کوتاہی کی بنابری غیر حاضر تصور کیا جائے گا اور اس کی مزاج اور پردی ہوئی شق کے مطابق ہوگی۔

iii- جب کسی نیم کو کسی "سیٹ" یا "نیچ" کے لیے نامکمل (Incomplete) قرار دے دیا جاتا ہے (ہر ایک نیم کے کھیل میں چند کھلاڑی ہونا ضروری ہے) تو وہ سیٹ یا نیچ ہار جاتی ہے اور مختلف نیم کو جیت کے لیے درکار پاؤ نش یا سینٹس دے کر جیتا ہو اقرار دے یا جاتا ہے اور سکوریٹ پر نامکمل نیم کے اتنے ہی پاؤ نش یا سینٹس اور سیٹ درج کیے جائیں گے۔

سکھا چھال کر فیصلہ کرنا (Toss):

کھیل شروع کرنے سے پہلے ریفری اول دونوں نیم کسپری موجودگی میں سکھا چھال کر (ناس کے ذریعے) پہلے سیٹ میں پہلی سروں اور کورٹ کی سائینڈ کے انتخاب کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ ناس چینتے والے نیم کمپین کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے سروں کرنے یا دصول کرنے یا کورٹ کی سائینڈ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، جبکہ ہارنے والے فریق کو باقی ماندہ میں اسے اپنی پسند کے انتخاب کا حق حاصل ہوتا ہے، اگر فیصلہ کن سیٹ کھینچا مقصود ہو تو اس کے آغاز سے پیشتر دوبارہ ناس کیا جاتا ہے اور کھیل کے شروع والا اطربیت کا رانپا یا جاتا ہے۔

"نیم شارٹنگ لائن اپ" (Team Starting Line-up):

(i) (الف) کھیل میں ہر ایک نیم کے ہر وقت چھکھلاڑی ہونے لازمی ہے۔

(ب) کھلاڑی کی کورٹ میں "روٹیشن" کی ترتیب ہر ایک نیم کی "شارٹنگ لائن اپ" کے مطابق ہوئی چائے اور اسے پورے سیٹ کے زور ان تمام رکھا جائے گا۔

(ii) ہر سیٹ کے شروع ہونے سے پیشتر کوئی اپنی نیم کی دھنخٹ شدہ "شارٹنگ لائن اپ" ریفری دوہم یا سکورر کو دے گا۔


(iii) جب کوئی کھلاڑی اپنا حق خود ادا کر ستمال کرتے ہوئے اپنے ایک دفاقتی کھلاڑی کا نام بطور "لیبر" درج کر لیتی ہے تو اس کھلاڑی کا نمبر بھی دوسرے پیچکھلاڑیوں کے سہرا "شارٹنگ لائن اپ شیٹ" پر درج ہونا ضروری ہوتا ہے۔

(iv) وہ کھلاڑی جن کے نام اس لست میں درج نہیں ہوں گے اجس متبادل کھلاڑی کی تصور کیا جاتا ہے ایک دفعہ "شارٹنگ لائن اپ" حلقہ اپکار کو پیش کرنے کے بعد اس میں کسی حصہ کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی (اما وہ کھلاڑیوں کی معمول کی تبدیلی کے لیے ایک سیٹ میں صرف چھتہ بیلیاں کی جاسکتی ہیں)، کیسی شروع ہونے سے پیشتر اگر "شارٹنگ لائن اپ" اور کورٹ میں کھلاڑیوں کی پوزیشنوں میں فرق یا ایسا کوئی کھلاڑی ہو جس کا نام اس "لست" میں نہ ہو تو اس کی فوراً اسی درجگی کی جاتی ہے (اسی بے شمارگی کی بنابر کوئی سزا نہیں دی جاتی)۔

کورٹ میں کھلاڑیوں کی پوزیشنیں:

(الف) جس وقت سروں کے لیے گیند کو را جائے اس وقت ہر ایک نیم کے تمام کھلاڑی روٹیشن کی ترتیب (Rotational Order) میں کھڑے ہوں گے (ماسوائے سروں کرنے والے کھلاڑی کے)۔

(ب) کھلاڑیوں کی پوزیشنوں کو نمبروں کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ اگلی قطار کے کھلاڑی جال کے نزدیک کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل پوزیشنیں اپنا سکتے ہیں:



- 4 (سامنے باہمیں جانب)، 3 (سامنے درمیان میں)، 2 (سامنے والیں جانب) بھی قطار میں، 5 (بیچے والیں جانب)، 6 (بیچے درمیان میں)، 1 (بیچے والیں جانب) بھی قطار کے کھلاڑی اگلی قطار کے کھلاڑیوں سے جال کی تبست زیادہ بیچے ہوں گے اور ان کی پوزیشنوں کا تین کھلاڑی کے زمین پر لگنے پاؤں کی متناسب سے کیا جاتا ہے۔
- a. مثال کے طور پر اگلی قطار کے کھلاڑی کے پاؤں کا کچھ نہ کچھ حصہ کا بھی قطار کے مقابلی کھلاڑی کی نسبت درمیانی کیر کے نزدیک ہونا لازمی ہوتا ہے۔
 - b. اسی طرح والیں (باہمیں) طرف کے کھلاڑیوں کے پاؤں کا کچھ نہ کچھ حصوں کا والیں (باہمیں) جانب کے مقابلی کھلاڑیوں کی نسبت اطرافی کیر کے نزدیک ہونا لازمی ہے۔
 - c. جب سروس ہو جائے تو کھلاڑی 'کورٹ' اور 'فری زون' میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں۔

"روٹیشن" (Rotation):

روٹیشن کی ترجیب نیم کی شارٹنگ لائن اپ کے مطابق متعین کی جاتی ہے اور اس کی بنا پر اسے پورے سیٹ کے ذریعہ سروس

کرنے اور کھلاڑیوں کی پوزیشنوں کے تین کے لیے لاگو رکھا جاتا ہے۔ سروں وصول کرنے والی نیم جب سروں کرنے کا حق حاصل کر سکتی ہے تو اس کے کھلاڑی کھڑی کی سوئیوں کے رخ (Clock-wise) ایک ایک پوزیشن آگے جگہ تبدیل کر لیں گے، مثلاً کھلاڑی نمبر دو کھلاڑی نمبر ایک کی جگہ پر ادا ایک، چھوٹی جگہ پر چلا جاتا ہے وغیرہ۔

"روٹیشن" کی بے شابطگی (Rotational Faults):

یہ بے شابطگی اس وقت ہوتی ہے جب سروں کرتے وقت "روٹیشن" کی ترتیب کا لامانا نہ رکھا جائے تو سرانکے طور پر بے شابطگی کرنے والی نیم کو اس ریلی میں ہارا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے اور مختلف نیم کو ایک پاؤں کے علاوہ سروں کرنے کا حق بھی دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کی روٹیشن کی ترتیب کی صحیح کروی جاتی ہے۔ "سکورر" کو اس بے شابطگی ملنے سے سروز ہونے کے صحیح لئے کا تین کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس لئے کے بعد بے شابطگی کرنے والی نیم کے سکور کردہ تمام پاؤں قلع قلم کر دینے جاتے ہیں۔ جبکہ مختلف نیم کے سکور کردہ پاؤں کو سچی مان لیا جاتا ہے، لیکن اگر اس وقت کا صحیح تین کیا جائے تو دونوں نیموں کے سکور کو صحیح تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن بے شابطگی کرنے والی نیم موجودہ "ریلی" ہماری ہوئی تصور ہوگی۔

کھلاڑیوں کی تبدیلی (Substitution of Players):

یہ ایک اہم اہمیت ہے جس کے ذریعے رفری ایک کھلاڑی کو کورٹ چھوڑنے اور دوسرا کھلاڑی کو اس کی جگہ لیتے کا اختیار دیتا ہے اور سکورر ان کا باقاعدہ حساب رکھتا ہے۔

تبدیلی کی پابندیاں (Limitations):

(الف) ایک سیٹ میں ہر نیم کو زیادہ سے زیادہ 6 کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے اور ایک وقت پر ایک یا ایک سے زیادہ کھلاڑی تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔

(ب) "شارٹنگ لائن اپ" ہر درج شدہ کھلاڑی ایک سیٹ میں صرف ایک بار تبدیل ہونے کے بعد اپنی یہی جگہ پر ہی آسکتا ہے۔

(ج) ایک تبدیل کھلاڑی ایک سیٹ میں صرف ایک دفعہ شامل ہو سکتا ہے لیکن اگر اسے تبدیل کرنا مقصود ہو تو اسکی جگہ صرف وہی کھلاڑی کھیل میں شامل ہو سکتا ہے جسے اس نے تبدیل کیا تھا۔

خصوصی تبدیلی (Exceptional Substitution):

رُشی کھلاڑی تبدیلی کے قابل نہ ہے تو اسے تبدیلی کے ضابطوں کے تحت تبدیل کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اس کرنا ممکن نہ ہو تو وہ نیم اس ضابطہ کی شیخ (الف) کی پابندی کے باوجود ہی ایک خصوصی تبدیلی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس خصوصی تبدیلی سے مراد ایسا کوئی بھی کھلاڑی جو پوچھ لگنے کے وقت کورٹ میں نہیں تھا (ماسوائے "لیبرو" کے) اس رُشی کھلاڑی کی جگہ لے سکتا ہے لیکن یہ رُشی کھلاڑی دوبارہ کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کسی ایسے کھلاڑی کو حصے مقابلے سے خارج کر دیا گیا ہو ضابطہ کے مطابق اس کی جگہ دیبا کھلاڑی کھیل میں شامل کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اس کرنا ممکن نہ ہو تو اس نیم کو ناکمل قرار دے دیا جاتا ہے۔


"لیبرو" کھلاڑی (Libero Player):

نیچی شروع ہونے سے پہلے اس کھلاڑی کا نام "سکورر شیٹ" پر خصوصی جگہ پر درج کرنا لازمی ہوتا ہے اور پہلے "سیٹ" کی

لائن اپ شیٹ پر اس کے نیبر کا ہونا بھی لازمی ہے۔ لیبرڈ کھلاڑی کھیل میں مندرجہ ذیل شرائط کے تحت شامل ہو سکتا ہے:-

- آ۔ اس کا لباس دوسرے کھلاڑیوں سے مختلف ہوتا ہے۔
- ii۔ وہ پچھلی قطار کے کسی بھی کھلاڑی کو تبدیل کر سکتا ہے اور صرف پچھلی قطار کے کھلاڑی کی حیثیت سے کھیل سکتا ہے اور کسی صورت میں جال سے اوپرچے گیند کو اٹیک ہٹ، فیں مار سکتا اور نہ ہی سروس یا بلانگ کر سکتا ہے۔ لیبرڈ کی تبدیلی کو معمول کی تبدیلی نہیں گروانا جاتا اس کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھیں تاہم لیبرڈ کی ہر تبدیلی کے درمیان ایک ریلی کا ہونا ضروری ہے (یعنی جب بھی اس کی نیم دوسرے سروس کرنے کا حق حاصل کر لے تو پھر اسے کم از کم ایک ریلی کیلئے تبدیل کر دیا جاتا ہے)۔
- iii۔ اگر کھیل کے دوران لیبرڈ رُخی ہو جائے تو ریفری اول کی اجازت سے کسی بھی ایسے کھلاڑی کو لیبرڈ نامزد کیا جاسکتا ہے جو کوئی میں کھیل نہ رہا ہو، یعنی زمیں لیبرڈ دوبارہ کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا۔

کھیل میں گیند کی مختلف صورتیں:-



- i۔ گیند کا کھیل میں تصور ہوتا (Ball in play): ریفری اول کی سیٹی کے بعد جب گیند کو سروس کرنے کے لیے مارا جائے تو گیند کھیل میں تصور ہوتا ہے۔
- ii۔ گیند کھیل میں تصور نہ ہوتا (Ball not in play): جب کوئی بھی ریفری کسی فالٹ کے سرزد ہونے پر یا اس کے علاوہ بھی سیٹی بجا دے تو گیند کھیل میں تصور نہیں ہوتا۔
- iii۔ گیند کا کورٹ کے اندر گرنا (Ball in): جب گیند کورٹ کے فرش کو (جس میں اس کی حدود کی لکیریں بھی شامل ہیں) پھوٹے تو اسے 'بال ان' کہا جاتا ہے۔
- iv۔ گیند کورٹ سے باہر گرنا (Ball out): مندرجہ ذیل صورتوں میں گیند کورٹ کو حدود سے باہر گرنا تصور ہوتا ہے:
 - (الف) جب گیند کا وہ حصہ جو زمین کو پھوٹے کمل طور سے حدود کی لکیروں سے باہر ہو، یا
 - (ب) جب گیند کسی اسی چیز کو پھوٹے جو کورٹ کی حدود سے باہر ہو (مثلاً چمٹت، کوئی ٹھنک، جال کے ٹھباؤں ایسا ہی اور سیوں یا سائینڈ ہینڈ سے باہر کے جال کو وغیرہ)۔

(ج) جب گیند کامل طور پر باس کا کچھ مخصوص کردہ گز رگاہ کی عمودی حد کے درمیان میں سے نگز رے۔

(د) جب گیند کامل طور پر جال کے نیچے سے گز رجائے۔

گیند کو حیلہ:

ہر ایک ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخصوص کھیلنے کے علاقہ (Playing Area) اور گیند کی مخصوص شدہ گز رگاہ کے اندر کھیلیں تاہم فرمی زون کے باہر سے بھی گیند کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

”ٹیم ہس“ (Team Hits):

ہر ٹیم گیند کو واہیں بھیجنے کے لیے اسے زیادہ تین مرتبہ مار سکتی ہے (ساوائے بلکن کے) اگر کوئی ٹیم گیند کو چار دفعہ مار دے تو یہ بے ضابطی ”فور ہس“ (Four Hits) کہلاتی ہے۔ ”ٹیم ہس (Team Hits)“ میں کسی کھلاڑی کا دیدہ و دانستہ طور پر گیند کو مارنے کے عمل کے علاوہ غیر ارادی پھوٹا بھی شامل ہوتا ہے۔

کوئی کھلاڑی گیند کو مسلسل دو مرتبہ بھیں مار سکتا (ساوائے بلکن کے) ایک ہی وقت پر گیند جسم کے ایک سے زیادہ حصوں کو پھوٹے۔

گیند کو ہم وقت پھوٹنا:

(الف) جب ایک ہی ٹیم کے دو (تین) کھلاڑی گیند کو ایک ہی وقت پر پھوٹیں تو یہ دو، تین مرتبہ مارنا تصور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ تمام گیند تک چیخنے کی کوشش کریں لیکن ان میں سے صرف ایک ہی گیند کو پھوٹاے تو اسے صرف ایک مرتبہ مارنا تسلیم کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں کھلاڑیوں کا باہمی تکرار ہے ضابطی کے زمرہ میں نہیں آتا۔

(ب) جب دو مختلف کھلاڑی جال کے اوپر سے گیند کو ایک ہی وقت پر پھوٹ لیتے ہیں اور اگر گیند کھیل میں ہی رہتا ہے تو جو بھی ٹیم اس گیند کو حاصل کرے گی وہ اسے تین مرتبہ مارنے کا حق رکھتی ہے لیکن اگر یہ گیند کو رٹ کی حدود سے باہر جا گرے تو اسے مخالف ٹیم کا فالٹ گردانا جائے گا۔

(ج) اگر دو مختلف کھلاڑیوں کے گیند کو ایک ہی وقت میں چھوٹنے سے یا ان کے ہاتھوں میں کچھ وقت کے لیے رک جائے تو اسے ذلیل فالٹ تصور کیا جاتا ہے اور اسی دوبارہ کھیل جاتی ہے۔

اعانت شدہ ہٹ (Assisted Hit):

اپنے کھیلنے کے علاقہ میں کوئی کھلاڑی گیند تک چیخنے کے لیے اپنے کسی ساتھی یا کسی اور چیز کا سہارا لینے کا مجاز نہیں تاہم اگر کوئی کھلاڑی فالٹ کرنے والا ہو، مثلاً وہ جال کو پھوٹنے یا رکھنے یا کورٹ کی درمیانی کیبر کو پہنچ کرنے والا ہو، تو اسی صورت کے پیش نظر اس ساتھی اسے پیچے سے پکڑ کر روک سکتا ہے۔

ہٹ کی خصوصیات (Characteristics of the Hit):

گیند جسم کے کسی بھی حصہ کو لگ سکتا ہے لیکن اسے مارنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو نہ تو پکڑا اور نہ اسی کسی طرف کو پھینکا جاسکتا ہے گیند کسی بھی سمت اچٹ (Rebound) سکتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں کو ایک ہی وقت میں پھوٹ سکتا ہے۔

گیند کو کھیلنے میں بے ضابطگیاں (Faults in Playing)

- (الف) گیند کو اپنی سینے کے لیے اسے چار مرتبہ مارنا (Four Hits)۔
- (ب) اعانت شدہ ہٹ لگانا جس میں کھلاڑی اپنے ساتھی یا کسی اور پریز کا سہارا لے کر گیند تک پہنچ جائے (Assisted Hits)۔
- (ج) گیند کو مارنے کی بجائے اسے پکڑ لیتا یا پھینکنا (Catch)۔
- (د) کھلاڑی گیند کو دو وقفہ یکے بعد دیگرے مارے یا گیند مختلف اوقات میں اس کے جسم کے مختلف حصوں کو تجوہ لے (Double Contact)۔

جال پر کھیل:

گیند کا جال کو عبور کرنا:

گیند کو خلاف کی کورٹ میں بینے کے لیے مخصوص گزرگاہ (Crossing Space) میں سے گزرنा ضروری ہوتا ہے۔ جس کا تعین اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ نیچے کی جانب جال کا اوپر کا کنارہ، اطراف پر ائینا اور ان کا فرضی ہوڑا اور اوپر کی جانب ”ان ڈور کورٹ“ کی صورت میں اسکی چھت اور ”آؤٹ ڈور“ کی صورت میں لاہور، جب گیند مکمل طور پر جال کے نیچے سے گزر جائے تو اسے ”آؤٹ“ تصور کیا جاتا ہے۔

گیند کا جال کو تجوہ نہیں:

گیند جال کو عبور کرتے وقت چھو سکتا ہے، لیکن سروں کے علاوہ اگر گیند جال کو تجوہ کرے تو اسے واپس بینے کے لیے اس پر تین مرتبہ مارنے کے ضابطہ کا ہی اطلاق ہوگا، لیکن اگر گیند جال کو چھو کر اس میں سے گزرنے یا اس کو نیچے گردے تو یہ دوبارہ کھیل جائے گی۔

کھلاڑی کا جال کی اوپری حد عبور کرنا:

- بلاک کرتے وقت بلاک کرنے والا کھلاڑی کا جال کی حد سے آگے گیند کو تجوہ سکتا ہے، بشرطیکہ خلاف کی ایک ہٹ مارنے سے پہلے کے کھیل میں یا اس کے ذریعہ رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔
- ”ایک ہٹ“ مارنے کے بعد کھلاڑی کا اتحاد جال کی دوسری طرف جا سکتا ہے بشرطیکہ اس نے اپنی طرف سے ماری ہو۔

وطلی لکیر کے پار خلاف کی کورٹ میں داخل اندازی:

کھلاڑی کے صرف ہاتھ یا پاؤں و طلی لکیر کے پار خلاف کی کورٹ کو تجوہ کرنے ہیں، مگر ان کے پچھنے کچھ حصوں کا وطلی لکیر کے اوپر ہتنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کے کسی اور حصہ سے خلاف کی کورٹ کو تجوہ نامنوع ہے: ہم جب گیند کھیل میں نہ ہو تو وہ خلاف کی کورٹ میں داخل ہو سکتا ہے۔ کھیل کے ذریعہ کھلاڑی خلاف کے فری زون میں داخل ہونے کا مجاز ہے بشرطیکہ وہ ان کے کھیل میں خل نہ ہو۔

جال کو مُخوب نہیں:

جادوئی طور پر جال کو چھوپنے والے ساحلی کے زمرے میں نہیں آتا ہے ما سائنس کسی ایسے کھلاڑی کے جو گیند کو کھینچنے کی کوشش میں اسے مُخوب لے۔ جب کوئی کھلاڑی ایک ونچ گیند کو مار لے تو وہ گھبیوں، اس کی رسمیوں یا جال کی پوری لمبائی کے باہر کسی اور پیچ کو چھوپنے والے بڑھتیک وہ مخالف کے کھیلوں میں خل نہ ہو، اگر مخالف نیم کا کھیلا ہوا گیند جال میں زور سے لگے کہ جال میں سے یہ مخالف کو مُخوب لے تو اسے مخالف کی بے ضابطگی رفتار تصور نہیں کیا جائے گا۔

جال پر کھیل کے دوران بے ضابطگیاں افلاں:

- (الف) مخالف کھلاڑی کی ایک بہت سے پہلے یا اس کے دوران اگر کوئی کھلاڑی گیند یا کسی مخالف کو انہی کے کھینچنے کی حدود میں پھوپھو لے۔
- (ب) اگر کھلاڑی جال کے نیچے مخالف کی کورٹ میں داخل ہو کر ان کے کھیلوں میں دخل اندازی کرے۔
- (ج) اگر کوئی کھلاڑی واطھی تکیر کو مکمل طور پر پار کر لے۔
- (د) جب کوئی کھلاڑی گیند کو کھیلتے ہوئے جال یا انہیں پھوپھو لے۔

"سروس" (Service):

یہ گیند کو کھیل میں شامل کرنے کے عمل کا نام ہے جس میں پہلی قفار کا دامیں جانب کا کھلاڑی سروس زون میں کھڑے ہو کر گیند کو اچھاں کر اور باتحصہ سے مار کر جال کے اوپر سے مخالف کی کورٹ میں پھینکتا ہے۔

پہلے سیٹ میں پہلی سروس:

پہلے سیٹ اور فیصلہ کن سیٹ میں پہلی سروس کرنے کا فیصلہ دونوں نیمیوں کے کمپنیوں کے درمیان ناس سے کیا جائے گا۔ دوسرے تمام نیمیوں میں پہلی سروس وہ نیم کرے گی جس نے اس سے پہلے سیٹ میں سروس نہیں کی تھی۔

سروس کی ترتیب (Service Order):

ہر ایک سیٹ میں سروس کی ترتیب "اُن اپ شیٹ" پر درج شدہ ترتیب کے مطابق ہی متین کرنی شروعی ہے۔ ہر سیٹ میں پہلی سروس کے بعد اگلی سروس کرنے والے کھلاڑی کا قیمتی مندرجہ ذیل طریقہ سے کیا جاتا ہے۔

(الف) جب سروس کرنے والی نیمی ریلی جیت جاتی ہے تو وہی کھلاڑی (یا اس کا مقابل) جس نے پہلے سروس کی تھی اگلی سروس کرے گا۔

(ب) جب سروس وصول کرنے والی نیمی ریلی جیت جاتی ہے تو اسے اگلی سروس کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور سروس کرنے سے پہلے اس نیم کے کھلاڑی گھری کی سویجوں کے رخ ایک ایک جگہ آگے تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگلی قفار کا دامیں جانب کا کھلاڑی پہلی قفار میں دامیں جانب جا کر سروس کرتا ہے۔ ریلی اذال اس امر کی پوری طرح سے تسلی کرنے کے بعد کہ

دونوں ٹیکس کھینچنے کے لیے تیار ہیں اور سرویس کرنے والے کھلاڑی کے ہاتھ میں گیند ہے سیٹی بھاکر سرویس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

سرویس کرنا (Execution of the Service)

سرویس کرنے کے لیے ایک ہاتھ یا ہاتھ کے کسی حصے سے گیند کو ہوا میں آپھاں کر یا ہاتھ سے چھوڑ کر اس سے پیش کر، جسم کے کسی اور حصہ کو فرش کو لگ کر مار جاتا ہے۔

جس وقت سرویس کے لیے گیند کو مارا جاتا ہے یا "سپائک سرویس" (Spike Service) کے لیے ہوا میں گوادا جاتا ہے تو کھلاڑی کو کورٹ کے اندر جس میں بچپنی تک رسیا سرویس زون کے باہر کی جگہ بھی شامل ہے اسے تھوڑے کی اجازت نہیں۔ میلن گیند کو مارنے کے بعد وہ کورٹ کے اندر یا سرویس زون کے باہر قدم رکھ سکتا ہے۔ ریفری اول کی سیٹی بجائے کے بعد آٹھ یکنڈ کے اندر اندر ہی سرویس کرنا لازمی ہے تاہم ریفری کی سیٹی سے پیش کی ہوئی سرویس منسوخ شمار ہوگی اور اسے دوبارہ کیا جائے گا۔

سرویس کرنے کی کوشش (Service Attempt)

سرویس کے لیے صرف ایک ای کوشش دی جاتی ہے جب کھلاڑی سرویس کرنے کی غرض سے گیند کو ہوا میں آپھاں یا مچھوڑتا ہے اور کھلاڑی گیند کو کھلے بغیر زمین پر گر جانے دیتا ہے تو یہ میں سرویس کی کوشش شمار ہوتا ہے، اگر سرویس کی پہلی کوشش کے بعد منصف اعلیٰ دوبارہ سرویس کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو سرویس کرنے والے کھلاڑی کے لیے لازمی ہے وہ بلاتا خیر اگلے تین یکنڈ کے اندر اندر ہی دوبارہ سرویس کرے۔

سرویس کی بے نواب طالیاں (Service Faults)

مندرجہ ذیل بے نواب طالیوں کی بارہ سرویس کرنے کا حق تبدیل ہو جاتا ہے اگر:

(الف) سرویس کی ترتیب کے مطابق نہ کی جائے۔

(ب) سرویس صحیح طریق سے نہ کی جائے۔

(ج) (i) سرویس کرنے کی کوشش کے مجوزہ طالیوں کی کسی بھی صورت میں خلاف ورزی کی جائے۔

(ii) گیند کو صحیح طریق سے مارنے کے بعد اگر گیند سرویس کرنے والی ٹیکم کے کسی کھلاڑی کو مچھوڑے یا جاں کی عمودی حد کو عبور نہ کر پائے یا کورٹ کی حدود سے باہر جا گرے (سرویس کے ذور ان اگر گیند جاں کو مچھوڑ کر پار چلی جائے تو اسی سرویس کو صحیح مان لیا جاتا ہے)۔

ایک ہٹ (Attack Hit)

سرویس اور باؤک کے علاوہ کھلاڑی کے وہ تمام افعال جن کے ذریعے وہ گیند کو مخالف کی طرف سینجن کے لیے استعمال کرتا ہے ایک ملٹس کہلاتے ہیں۔ ایک ہٹ میں گیند کو بالا سماں بھی چھوڑا جاسکتا ہے لیکن اسے پکڑنا یا دھکیلا نہیں جاسکتا۔ ایک ہٹ گیند کے جاں کے عمودی حد کو عبور کرنے والے مخالف کے بخوبی لینے کے ماتحتی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔

(Restrictions of the Attack Hit)


اگلی قطار کا ہر کھلاڑی گیند کو کسی بھی بندی سے "ایک ہٹ" مار سکتا ہے بشرطیکہ گیند کو اس نے کھینے کی اپنی حدود (Own Playing Space) میں سے ما را ہو۔ پچھلی قطار کا کھلاڑی "فرنٹ زون" سے پہنچ رہا کہ گیند کو کسی بھی بندی پر سے "ایک ہٹ" مار سکتا ہے۔ بشرطیکہ جب وہ ہوا میں اچھے تو اس کا پاؤں نہ تو "ایک لائن" (Attack Line) کو پہنچوئے اور شاہی اسے عبور کرے البتہ گیند کو مارنے کے بعد وہ "فرنٹ زون" میں اتریا گر سکتا ہے، اگر گیند کا کوئی حصہ اتصال کے وقت جال کی بندی سے نیچا ہو تو اسے پچھلی قطار کا کھلاڑی "فرنٹ زون" میں سے بھی ایک ہٹ مار سکتا ہے۔ مخالف کی جال سے اوپر سروں پر فرنٹ زون میں ایک ہٹ مارنے کی اجازت نہیں۔

(Faults of Attack Hit)

- (ا) اگر کھلاڑی مخالف نیم کے کھینے کی حدود کے اندر گیند کو کھینے۔
- (ب) اگر گیند کھیل کی حد بندی تکریروں کے باہر جا گئے۔
- (ج) پچھلی قطار کا کھلاڑی "فرنٹ زون" میں سے گیند کو اس وقت کھینے جبکہ یہ مکمل طور پر جال سے بیرون ہو۔
- (د) کھلاڑی "فرنٹ زون" میں سے مخالف کی سروں پر اس وقت "ایک ہٹ" مارے جب کہ گیند مکمل طور پر جال سے اوپر چاہیے جب "لیرہ" کسی ایسے گیندوں "ایک ہٹ" مارے جو مکمل طور پر جال سے بیرون ہو۔

(Blocking)

جال کے نزدیک اگلی قطار کے کھلاڑیوں کا جال کی بندی سے اوپر چاہیوں کو درجہ مخالف کے گیند کو روکنے کا ایک دفاعی عمل ہے۔ جس میں صرف اگلی قطار کے تمام کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں۔ بلاکگ کے ذریانے یہ کہ وقت گیند ایک یا ایک سے زائد کھلاڑیوں کو پہنچو سکتا ہے۔ بلاکگ کے ذریانے کھلاڑی کے ہاتھ یا بازوں جال کی حد کو عبور کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ مخالف کے کھیل میں خلل اندماز نہ ہو لیکن مخالف کی "ایک ہٹ" مارنے سے ڈسٹر، جال کے پار گیند کو پہنچنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بلاکگ کے ذریانے گیند کو پہنچو لینا "نیم ہش" میں شماریں ہوتا بلکہ گیند کو اپس سمجھنے کے لیے اسے ضریب تین دفعہ مارنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ بلاک کے بعد کوئی بھی کھلاڑی گیند کو پہنچیں "ہٹ" مار سکتا ہے چاہے اس کھلاڑی نے بلاک کرتے وقت گیند کو پہنچا ہو۔ مخالف کی سروں کو بلاک کرنا منوع ہے۔



بلاک کی بے ضابطگیاں (Faults of Blocking)

- (الف) بلاک کرنے والا کھلاڑی اگر گیند کو خلاف کی کھیلنے کی حدود میں ایک ہٹ سے پہلے یا اس کے لگانے کے وقت جھوٹے۔
- (ب) بھیجنی تھار کا کھلاڑی اگر بلاک میں حصے۔ (ج) خلاف کی سروں بلاک کرنا۔
- (د) بلاک کیا ہوا گیند اگر کورٹ کی حدود سے باہر چلا جائے۔
- (و) اشنا کے باہر سے خلاف کے کھیلنے کی حدود میں گیند کو بلاک کرنا۔ (و) اگر لیبرڈیلاک میں حصے۔

کھیل کو قتی طور پر روکنا اور تاخیر (Interruptions and Delays)

معمول کے مطابق کھیل کو نامم آؤٹ اور کھلاڑیوں کی تبدیلی کے لیے روکا جاتا ہے۔ ہر ایک ٹیم کو ہر سیٹ میں دو نامم آؤٹ لینے اور 6 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ کھیل روکنے کی درخواست صرف کوچ یا ٹیم کیپشن ہی کر سکتے ہیں یہ درخواست ہاتھ کے روایتی اشارے کی مدد سے اس وقت کی جاتی ہے جب گیند کھیل میں نہ ہو اور یہ فری نے اگلی سروس کے لیے ابھی بھی نہ بجائی ہو۔ سیٹ شروع ہونے سے پہلے اگر تبدیلی کی درخواست کی جائے تو اسے مان لیا جاتا ہے لیکن اس تبدیلی کو اس سیٹ میں معمول کے مطابق تبدیلی شمار کیا جاتا ہے۔

"نامم آؤٹ" اور "میکنیکل نامم آؤٹ" (Time Out & Technical Time Out)

- (الف) معمول کے "نامم آؤٹ" کی میعاد 30 سیکنڈ ہوتی ہے۔
- (ب) یعنی الاقوامی والی بال قید ریشن کے تمام مقابلوں میں پہلے چار سیٹوں میں سے ہر ایک سیٹ میں جب بھی کوئی ٹیم پہلے 18 اور 16 پاکٹ سکور کر لیتی ہے تو ایک ایک منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے "میکنیکل نامم آؤٹ" کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر ٹیم کو صرف ایک ایک معمول کا "نامم آؤٹ" لینے کا حق حاصل ہے جس کی مدت 30 سیکنڈ ہوگی۔
- (ج) فیصلہ کرنے سیٹ کے دوران "میکنیکل نامم آؤٹ" نہیں دیئے جاتے بلکہ ہر ایک ٹیم معمول کے مطابق دو "نامم آؤٹ" لینے کی مجاز ہے۔

تمام "نامم آؤٹس" کے دوران کھلاڑیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے "لیم فٹ" (Team Bench) کے نزدیک فری زون میں چلے جائیں۔

کھلاڑیوں کی تبدیلی (Player's Substitution)

کھلاڑیوں کی تبدیلی صرف تبدیلی کے مخصوص علاقوں میں ہی کرنا ضروری ہے۔ تبدیلی کے لیے وقت اتنا ہونا چاہیے جس میں سکور شیٹ پر اس تبدیلی کا اندر اج اور کھلاڑی کو کورٹ میں داخل ہونے اور باہر آنے کے لیے مناسب ہو۔ (یعنی الاقوامی مقابلوں میں سہولت کے لیے کھلاڑیوں کے نمبر ظاہر کرنے کی تختیاں استعمال کی جاتی ہیں)۔ جس وقت تبدیلی کے لیے درخواست کی جائے تو وہ کھلاڑی جو کھیل میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے اپنے کوچ کے نزدیک بالکل تیار کھزارہتا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو

کھاڑی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ اس نیم کو کھیل میں تاخیر کرنے کی بارہ منی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی وقت پر ایک سے زیادہ کھاڑی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اسے درخواست کرتے وقت اس تعداد کا بھی اشارہ دینا ہوگا اس صورت میں ایک جزوے کے بعد دوسرا جوڑا تبدیل کیا جاتا ہے۔

کھیل میں غیر معمولی قطع (Exceptional Game Interruption)

اگر کھیل کے دوران کوئی شدید حادثہ پیش آجائے تو یہی کوفر انی کھیل بند کر دینا چاہیے اور بھی اہم امور کرنے والے عمل کو کورٹ میں واپس ہونے کی اجازت دے دیتی چاہیے۔ بعد میں یہ ریلی دوبارہ کھیل جائے گی، اگر زندگی کھاڑی معمول کے مطابق یا غیر معمولی تبدیل کے ضابطے کے تحت تبدیل نہ کیا جاسکتا ہو تو اسی صورت میں کھاڑی کو محنت یا بیان کیے تین منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ ایسے کھاڑی کے لیے اس طرح کا وقفہ پورے بھی کے دوران صرف ایک ہی وقفہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھاڑی پھر بھی کھیلنے کے قابل نہ ہو تو اسی نیم کو ہمکمل قرار دے دیا جاتا ہے، اگر اس طرح کا قطع کسی بھی وتنی عناصر کی وجہ سے ہو تو کھیل کو روک دیا جاتا ہے اور پھر یہ ریلی دوبارہ کھیل جائے گی۔

کھیل کے دوران وقفہ (Intervals)

ہر ایک سیٹ کے درمیان تین منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے اس وقفہ کے دوران کو روشنی کی تبدیلی اور سکور شیٹ پر نیم لائن اپ کی ترتیب کا اندران کیا جاتا ہے۔

کو روشنی کی تبدیلی (Change of Courts)

فیصلہ کن سیٹ کے علاوہ ہر سیٹ کے اختتام پر دونوں نیم اپنے اپنے کو روشن تبدیل کر لیں گی اور ان کے باقی ساتھی اپنے اپنے نیم (Team Bench) کی تبدیل کر لیں گے۔ فیصلہ کن سیٹ میں جب بھی کوئی نیم پہلے آنحضرت پر ایک سکور کر لیتی ہے تو دونوں نیمیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے اپنے کورٹ تبدیل کر لیتی ہیں اور ان کے کھلاڑیوں کی پوزیشنیں وہی ہوں گی لیکن اگر کورٹ کی یہ تبدیلی مناسب وقت پر نہ کی گئی ہو تو بھبھی اس لفظی کا انکشاف ہو جائے کوفر انی اس کی درستگی کی جائے اور جو کو اس وقت ہوگا اسے مان لیا جائے گا۔

کھلاڑیوں کا اخراج (Player's Conduct)

کھلاڑیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ وہی بال کے قوانین کو جائز اور ان پر پوری طرح سے عمل کریں ان پر یہ بھی لازم ہے کہ اچھے کھلاڑی کی مادر یہی کے ہر فیصلے کو خوش اسلوبی سے قبول کریں۔ شبکی ہاپر اگر وہ چاہیں تو اپنے یہم کیپن کی وساحت سے اس کی وساحت طلب کریں۔ نیم کے باقی شرکا کو اسی حرکات اور معاندہ رہیا پانے سے گریز کرنا چاہیے جو ریفری کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی بے ضابطگیوں کو چھانے کے لیے ہو جوان کے اپنے ساتھیوں سے سرزد ہوئی ہوں۔

اصولوں کے مطابق کھیل (Fair Play)

کھیل کے شرکا کے لیے ضروری ہے کہ ریفری، کھیل کے دوسرے الکاروں، بیانیں اور تماشاگوں کے ساتھ ادب و احترام اور خوش اسلوبی سے پیش آئیں۔ کھیل کے دوران نیم کے ارکان باہمی زبانی رابطہ رکھ سکتے ہیں۔

کھلاڑیوں کی بد اخلاق اور اس کی شدت کی بنا پر سزا کا تعین:

کھلاڑیوں کا نامناسب روایہ:

غیر ضروری بحث کرنا، ڈرانا وھ کہا، گستاخانہ رویہ اپنانا، اچھے طور طریقوں کے منافی اور حقارت سے بھر پور طرزِ عمل کا انتہا رکھنا،
جاریت پر مبنی طرزِ عمل، تو جن آمیز الفاظ اور معنی خیز حرکات کا مظاہرہ کرنا۔

جارحانہ عزم:

لڑائی مار کنائی میں پہل کرنا، نسبتاً جاریت پر مبنی طرزِ عمل کا عملی مظاہرہ کرنا، ریفری اول قانون ٹکنی کی شدت کی مطابقت سے
مندرجہ ذیل مزاوں میں سے مناسب سزا کا اختیار کرتا ہے۔

i- بد اخلاقی کی بنا پر اعتماد: کھلاڑی کو منصب کیا جاتا ہے کہ وہ کھلاڑی کے غیر شایان شان رویہ کا اعادہ نہ کرے۔ سکورٹیٹ پر اس سزا کا
اندرانج کیا جاتا ہے اس کھلاڑی کا ایسا رویہ دبارة اپنانے پر اس نیم کورٹی میں ہارا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے۔

ii- بد اخلاقی کی بنا پر پیشی: گستاخانہ رویہ اپنانے پر اس کھلاڑی کی نیم کورٹی میں ہارا ہوا تصور کیا جاتا ہے اور اس پیشی کا اندرانج
سکورٹیٹ پر کیا جاتا ہے۔

iii- بد اخلاقی کی بنا پر کھیل میں وقعی طور پر اخراج: بھیج کے دوران جارحانہ رویہ کا اعادہ کرنے کی صورت میں اس کھلاڑی کو اس سیٹ
کے بقیہ حصے کے لیے کھیل سے خارج کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرنے سے پھر بھی بازنے آئے تو اسے
پورے بھیج میں سے نکال دیا جاتا ہے اور کھیل سے علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ اسکے علاوہ اس پیشی کا اندرانج سکورٹیٹ پر بھی کیا
جاتا ہے۔

iv- بد اخلاقی کی بنا پر جاریت پر مبنی رویہ کے مظاہرہ کی صورت میں کھیل سے اخراج (Disqualification): لڑائی مار کنائی
میں پہل کرنے والے کھلاڑی کو بھی ک تمام بقیہ حصے کے لیے بھیج سے علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے اور اس سزا کا اندرانج سکورٹیٹ پر
کیا جاتا ہے، اگر کھلاڑی اس طرح کے طرزِ عمل کا کھیل شروع ہونے سے پہلے یا مختلف سیلوں کے درمیان واقعوں کے دوران
عملی مظاہرہ کریں تو انہیں بھی بھی سزا بھی دی جائیں گے۔

کھیل کے ابکار، ان کے فرائض اور کھیل کی گمراہی کا طریقہ:

کھیل کے ابکاروں کا دست مدرجہ ذیل پر مشتمل ہوتا ہے۔

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| i- منصف اول (ریفری اول) | ii- منصف دوم (ریفری دوم) |
| iii- شارکنندہ (سکور) | iv- لائن ججز (دو/چار) |

کھیل کی گمراہی کا طریقہ کار:

i- صرف ریفری اول یا ریفری دوم بھی کے دوران بیٹھ جاسکتے ہیں۔ ریفری اول ریلی شروع کرنے کے لیے سروں کر لے کا شارہ دے گا۔

- ii- ریفری اول یا ریفری دوم "ریلی" کے اختتام کا اشارہ اس وقت دیتے ہیں جب انہیں اس بات کا پتہ چیزیں ہو جائے کہ کوئی اسکی بے ضابطگی سرزد ہوئی ہے جس کی وضاحت دی کر سکتے ہیں۔
- iii- جب کھیل وقیع طور پر رکا ہوا ہو تو ریفری سیٹی کے ذریعے کسی نیم کی درخواست کو منظور کرنے یا منظور کرنے کا اشارہ ہوتے ہیں۔
- iv- جوئی ریفری اول ریلی کو ختم کرنے کے لیے سیٹی بجا تا ہے تو ساتھ ہی وہ اتحاد کے مخصوص شدہ روایتی اشارے کی مدد سے اس بے ضابطگی کی مندرجہ ذیل طریقے سے وضاحت بھی کرتا ہے۔
- (الف) دو نیم جس نے ریلی شروع کرنے کے لیے سروں کرنی ہو۔ (ب) اس بے ضابطگی کی نوعیت کیا ہے۔
- (ج) کھلاڑی کا نمبر جس سے یہ بے ضابطگی سرزد ہوئی ہو۔
- (د) ریفری دوم ریفری اول کے دیئے ہوئے اشاروں کا اعادہ کرے گا۔

ریفری اول (First Referee)

وہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے ریفری سینڈ پر کھڑا ہو گا جو اطرافی لکیر کے باہر جال کے کسی ایک سرے کے ساتھ رکھا ہوا ہو گا۔ کھیل کی گرانی زیادہ موثر طریقے سے کرنے کے لیے اس کی نظر کی اونچائی جال سے 50 سینٹی میٹر اونچی ہو ناضوری ہے۔

اختیارات:

وہ کھیل کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک گرانی کرتا ہے۔ کھیل کے تمام ایکاروں اور ٹیوں کے ارکان کا گھر ان اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ جاتی ہوتا ہے وہ کھیل کے دوسرے ایکاروں کے غلط فیصلوں کو مط舟 کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کسی ایسے ایکار کو جو صحیح طور پر فرائض انجام دینے سے قاصر ہو تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ منصف اعلیٰ کھیل کے متعلق اپنے ممتاز حکم پر جن کی تحریک کھیل کے قوانین میں نہ کی گئی ہو، فیصلہ دیتا ہے۔ منصف اعلیٰ کسی شخص کو اپنے ہوئے فیصلے کے متعلق بحث یا تنتیہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا تاہم یہ کم کیسپن کی درخواست پر وہ اس ضابطے کے اطلاق کے متعلق تعریج کرے گا۔ جس کی بنا پر مذکورہ فیصلہ دیا گیا تھا۔

کھیل سے پیشتر مخصوص ذمہ داریاں:

- (الف) وہ کھیل میں استعمال ہونے والے تمام سامان کی جانچ پر ہتا اور کھیلنے کے علاقہ (Playing Area) کا معایب کرنے کے بعد اس کھیل کے لیے موزوں یا ناموزوں قرار دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
- (ب) دونوں نیم کو شکر کے درمیان ناس کرنا اور ٹیوں کے "وارم اپ" (Warm Up) کو کشوول کرنا۔
- کھیل کے دوران صرف منصف اعلیٰ ہی مندرجہ ذیل فیصلے دینے کا مجاز ہے:
- (الف) کھیل میں تاخیر اور کھلاڑی کی بد اخلاقی کی شدت کی جانچ اور سزا کا تعین کرنا۔
- (ب) سروں کرنے والے کھلاڑی سے سرزد ہونے والی بے ضابطگیوں اور سروں کرنے والی نیم کی پوزیشنوں کی ترتیب میں فلکی کی جانچ کرنا، اس کے علاوہ گینڈ کو کھیلتے وقت یا جال کے اوپر کھیل کے دوران سرزد ہوتے والی بے ضابطگیوں کی جانچ کرنا ہے۔

ریفری دوم (Second Referee)

ریفری اول کی مخالف سمت میں کورٹ سے باہر اور سمجھے کے نزدیک بیٹھا کھڑا ہو گا۔

اختیارات:

ریفری اول کا معادن ہونے کے علاوہ اس کی کچھ مخصوص ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ریفری اول مجھ کھیلانے کے قابل نہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ وہ سیٹی بجائے بغیر صرف ہاتھ کے اشارے سے کسی ایسی بے ضابطگی کی نشانہ ہی کر سکتا ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ لیکن وہ ریفری کو اسے قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ سکور کے کام اور پیشہ ہونے کیم کے اربکان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کی بد اخلاقی کی اطاعت ریفری اول کو دیتا ہے وہ تمام آؤٹ اور پانچویں اور چھٹی تہذیبی کے متعلق اس کیم کے کوچ اور ریفری اول کو آگاہ کرتا ہے۔ چوت کی صورت میں غیر معوبی تہذیبی (Exceptional Substitution) کے لیے تمدن کا وقفہ دینے کا حجاز ہے وہ تمام مجھ کے ذریعہ میان کے فرش کی حالت خاص طور پر فرست زون کا بائزہ دیتا ہے گا اور وقتی اس امر کی بھی پائچ کرتا ہے گا کہ گیندیں ضابطوں کے مطابق ہیں۔

مخصوص ذمہ داریاں:

ہر ایک سیٹ کے شروع میں اور فیصلہ کن سیٹ میں کورٹ تبدیل کرنے کے وقت یا جب بھی وہ اس کی ضرورت محسوس کرے اس امر کی تصدیق کرے گا کہ کھلاڑیوں کی پوزیشنیں، شارٹنگ لائن اپ، کے مطابق ہیں۔ مجھ کے ذریعہ وہ سیٹی بجا کر یا ہاتھ کے مخصوص اشارے کی مدد سے مندرجہ ذیل کی نشانہ ہی کرے گا۔

(الف) سروں وصول کرنے والی کیم کی کورٹ میں کھڑے ہونے کی بھروسے میں بے ضابطگی۔

(ب) کھلاڑی کا جال کے اپنی طرف سے جال یا اسٹینا کو چھو لیتا یا جال کے پیچے سے مخالف کے کورٹ میں دخل اندازی۔

(ج) چھپتی قطار کے کھلاڑیوں کا ایک ہٹ اور باراٹنگ میں بے ضابطگی۔

(د) گیند کا مخصوص شدہ گز رگاہ کی حدود سے باہر جال عبور کرنا یا اسٹینا کو چھو لیتا۔

(ه) گیند کورٹ کے فرش یا اس کی حدود کے باہر کسی پیز کو چھو لے جسے ریفری اول دیکھنے پایا ہو۔

سکورر (Scorer):

وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ریفری اول کی مخالف سمت میں کورٹ کی اطرافی لکیر سے باہر میز پر بیٹھا ہوتا ہے۔

ذمہ داریاں (Responsibilities):

سکور شیٹ کو قوانین کے مطابق ترتیب دینے کے لیے وہ ریفری دوم سے پورا تعاون کرتا ہے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں ریفری کو کسی خاص بات سے مطلع کرنے کے لیے گھٹنی یا کوئی ایسا ہی اشارہ و استعمال کرتا ہے۔ مجھ اور ہر سیٹ سے پہلے وہ سکور شیٹ پر دونوں نیوں کے ناموں کا اندر اراج کرنے کے بعد

سازنگ لائن اپ ان کی میا کرہے سازنگ لائن اپ شیٹ سے سکوریٹ پر درج کرے گا اگر کسی نیم نے سازنگ لائن اپ شیٹ سے نہ دی
گئی ہو تو وہ اسی وقت ریفری دوم کو مطلع کرے گا۔ وہ ان لائن اپ کو سوائے ریفری کے کسی اور شخص کو نہیں دکھائے گا۔
نیچے کے ذریں وہ ایک نیم کے سکور کرو پا اسکت سکوریٹ پر درج کرے گا اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ سکور یورڈ پر صحیح
سکور ظاہر کیا جا رہے ہے۔ ہر ایک نیم کی سروں کرنے کی ترجیب کی گرفتاری کرے گا اور علیٰ کی صورت میں فوراً اسی ریفری کو اس سے آگاہ کرے گا۔
نام آؤں / پاؤں اور کھلاڑیوں کی تہ دلی کو سکوریٹ پر درج کرے گا اور محل کو قبی طور پر رونکتے کی درخواست اگر معمول کے مطابق نہ ہو تو
فوراً اسی ریفری کو اس امر سے آگاہ کرے گا۔ شیٹ کے اختتام اور فیصلہ کرنے میں آنحضرت پاؤں کی سکور ہو جانے کی صورت میں اس کا اعلان
کرے گا اور سکوریٹ پر انتباہ اور سزا کا اندر اج کرے گا۔ نیچے کے اختتام پر تجھی تجھے کا اندر اج اور سکوریٹ پر خود و مختلط کرنے کے بعد
دوں نیم کی پیشہ سے اور پھر ریفری سے بھی دخدا کرے گا۔ احتیاج کی صورت میں وہ خود یا متعلق نیم کی پیشہ کو سکوریٹ پر اس واقعہ کی
صورتی حال درج کرنے کی اجازت دے گا۔

لائن ججز (Line Judges):

بین الاقوامی میچوں میں ضروری ہے کہ چار "لائن ججز" تعینات کیے جائیں۔ وہ فری زون میں کورٹ کے چاروں کونوں میں ایک
سے تین میڑ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر صرف دو لائن ججز استعمال کے جا رہے ہوں تو وہ دونوں ریفریوں کے دوں جانب کے
کونوں کے نزدیک کڑے ہوں گے اور ہر ایک اپنی طرف کی اطرافی اور پچھلی کیکروں کی گرفتاری کا ذمہ دار ہو گا۔

ذمہ داریاں (Responsibilities):

لائن ججز 30 مربع ستمی میٹر کی جگہ یوں کے ذریعے مندرجہ ذیل ذمہ داریاں جسمانیات ہے:

- i- وہ اپنی مخصوص شدہ کیکروں کے نزدیک گیند کے کورٹ کے اندر یا باہر گرنے یا جب گیند اشیا کو پھو لے یا مخصوص شدہ گز رگاہ کے
باہر سے چال کو عبور کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔
- ii- سروں کے وقت سروں کرنے والے کھلاڑی کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی اپنی کورٹ کی حدود سے باہر نہ کھڑا ہو۔
- iii- سروں کرنے والے کھلاڑی "فت قالت" کی جاگی کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لائن ججز کے لیے ضروری ہے کہ ریفری اقل کی
درخواست پر اپنے اشارے کا اعادہ کرے۔

باضابطہ اشارے (Official Signals):

ریفری کے ذاتی اشارے (Referee's Hand Signals): ریفری کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے
اس بے ضابطگی کی نشاندہی کرے اور اشارہ کیے ہوئے ہاتھ کو کچھ دلت کے لیے اسی حالت میں رہنے دے، اگر یہ اشارہ صرف ایک ہاتھ
سے کیا گیا ہو تو وہ سرے ہاتھ سے اسی نیم کی طرف اشارہ کرے جو اس بے ضابطگی کی مرکب ہوئی ہو یا اس نے کوئی درخواست کی ہو۔ اس
کے بعد ریفری ضابطہ ٹکن کھلاڑی کی نشاندہی کرے گا اور اپنے اشارے سے اس نیم کی نشاندہی پر نیم کرے گا جس نے اگلی سروں کرنی ہو۔

لائچ جمیز کے ساتھ اشارے (Line Judges' Flag Signals)

- جمنڈی پیچے کی جانب کرنا (گیند کو رٹ کے اندر گرنے کا اشارہ)۔
 - جمنڈی کو عموداً اور اندھادنیا (گیند کو رٹ کے باہر گرنے کا اشارہ)۔
 - جمنڈی کو سیدھا رکھتے ہوئے غالباً تھس سے نہ ہونا (رٹ سے باہر گرنے والی گیند کو ہاتھ لگ جانا)۔
 - جمنڈی کو سر سے اوپر ٹھلا جانا اور غالباً تھس سے اٹھانا یا پچھلی لکیر کی جانب اشارہ کرنا، (گیند کا اٹھانا کے باہر سے یا سر وہی کرنے والے کھلاڑی کے فٹ فالٹ کی نشانہ دی کرنا)۔
 - جمنڈی اور پر کی جانب سیدھی رکھتے ہوئے چھاتی پر ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ دنیا (فیصلہ دینا ممکن نہ ہونا)۔
- والی بال کی چیزوں چیزوں مہاریں (Important Skills of Volleyball)
سروس کرنے:

سروس کے تین طریقے ہیں:

(الف) ہاتھ کو پیچے سے اوپر ٹھلا تے ہوئے بینڈ منٹن کی طرح اونچی سروں کرنا (Underhand Service):

اگر دلیں ہاتھ سے سروں کرنا مقصود ہو تو گیند کو بالیں پھیلی پر رکھیں اور پاؤں آگے پیچے رکھتے ہوئے ہاتھ کو پیچے سے ٹھلا تے ہوئے اوپر لالیں اور اس سے پہلے کہ دیاں ہاتھ گیند کو لے گئے ہاتھ کی پھیلی گیند کے پیچے سے نکال لیں تاکہ دیاں ہاتھ گیند کو اس وقت لے گئے جکہ وہ ہوا میں ہونے کے پھیلی پر کھلاڑی بندھی یا ہاتھ کھلاڑک کر سروں کر سکتا ہے۔

(ب) ہاتھ کو پیچے سے ٹھلا کر بازو قریباً سیدھا رکھتے ہوئے گیند کو مارنا (Round or Hook Service):

سروس ایریا (Service Area) میں کھلاڑی اس طرح کھڑا ہو کر اس کے کندھے اور پاؤں سایہ لائیں کے متوازن ہوں۔ گیند کو ہوا میں اچھا لے، اگر کھلاڑی دلیں ہاتھ سے سروں کر رہا ہو تو بالیں بازو کو قریباً سیدھا رکھتے ہوئے ٹھکنوں میں خفیف ساختمانے کر اور ہاتھ کا پیالہ سا بنا کر گھنٹے سیدھے کرتے ہوئے گیند کو جو نبی وہ زد میں آئے، مارے اور بازو کی حرکت کو روک کے بغیر اپنے پہلوکی طرف لے آئے۔ اس قسم کی سروں سب سے مشکل قسم کی سروں گئی جاتی ہے اور اس کے لیے بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

(ج) ہاتھ کو سر کے اوپر سے لا کر گیند کو نہیں کی سروں کی طرح مارنا (Tennis Service):

دلیں ہاتھ سے سروں کرنے والا کھلاڑی پاؤں آگے پیچھے رکھ کر اس طرح کھڑا ہو کر سروں ایریا میں اس کا بایاں پاؤں دوسرے پاؤں کی نسبت پچھلی لکیر کے قریب رہو۔ گیند کو اپر اچھا لایے۔ کھلاڑی اپنے بازو کو گھنی سے قبیلہ کرے اور ہاتھ بند کر کے یعنی ہاتھ بنا کر یا کھلے ہاتھ سے گیند کو مارے جبکہ گیند کو مارتے وقت اس کے جسم کا وزن پچھلے پاؤں سے اگلے پاؤں پر آجائے۔ گیند کو مارنے کے بعد بازو کی حرکت کو نہ روک بلکہ آزاد طور پر آگے جانے دے اور گیند کو ہاتھ سے مارنے کے ساتھ ساتھ اپنا پچھلا پاؤں یعنی دیاں پاؤں باگیں پاؤں سے آگے لے آئے۔ لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ پاؤں سروں ایریا سے باہر نہ پڑے۔ یہ عمل سروں میں تیزی اور

توازن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ آج تک "سینس سروس" کے مندرجہ ذیل تین طریقے بہت ہی مقبول ہیں۔

- i. "ڈپ سروس" (Dip Service)

اس طریقہ میں گیند کو اس انداز سے مارا جاتا ہے کہ غیر متوقع طور پر گورٹ کے انگلے حصے میں گر جاتی ہے۔ جس سے دفائی کھلاڑی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعض اوقات اسے کھینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔


- ii. "فلوٹ سروس" (Float Service)

اس طریقہ میں گیند کو چڑی سے مارنے کے انداز (Hitting with Stick or Rod) میں مارا جاتا ہے۔ یہ ہوا میں تیز تا ہوا چھپلی لکیر کے بالکل نہ زد یک گر جاتا ہے۔

- iii. "سپاینک سروس" (Spike Service)


اس طریقہ کی سروس کرنے کے لیے کھلاڑی چھپلی لکیر سے یچھے سے دوڑ کر اور ہوا میں کوکر گیند کو پوری طاقت سے چاپک مارنے کے انداز (Whipping Action) سے "وائی" (Volley) کی مشکل میں مارتا ہے۔ اس طرح کی سروس میں گیند کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے اور اسے کھیننا کافی مشکل ہوتا ہے۔

(One Handed Dig)



یہ میں اس وقت کام آتا ہے جب گیند کھلاڑی کی کرسے یچھے ہو اور زمین پر گر رہا ہو۔ جس طرف گیند گر رہا ہو۔ کھلاڑی اس جانب بچک جائے اور اس کے زمین پر لگنے سے پہلے پھر تی سے اسی جانب کا بازو پھیلا کر اور مخفی بند کر کے گرتے ہوئے گیند کے زمین یچھے مکا مارے تاکہ گیند پھر بلند ہو جائے اور اس کا دوسرا ساتھی اسے کھیل سکے۔

دونوں ہاتھوں سے گرتے ہوئے گیند کو اٹھانا (Two Handed Dig)



کھلاڑی دونوں ہاتھوں کی الگیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں کا ایک طرح سے مکاہناتا ہے۔ بازو بالکل سیدھے رکھتے ہوئے گرتے ہوئے گیند کو پیچے سے اوپر کی طرف مارتا ہے تاکہ گیند دوبارہ گلند ہو جائے۔


گیند کو جال کے اوپر سے مارنا (The Spike)

ایک کھلاڑی گیند کو جال کی پاندھی سے زیادہ اوپر ہوا میں آچھا لے۔ پھر ایک کرنے والا کھلاڑی نہایت غور سے گیند کو دیکھئے اور کچھ فاصلے سے دوڑ کر جال کے نزدیک آ کر گھٹھوں کو جھکا کر دونوں پاؤں سے ہواں کو دے اور ہاتھ کو پیچے جلا کر گیند کو اس وقت مارتے جب وہ جال کی پاندھی سے قریباً ایک فٹ اونچا ہو۔ کھلاڑی اتنا اونچا کو دے کر وہ گیند کو اوپر سے پیچے کی طرف زور سے مار سکے۔ جال کے اوپر گیند کو ہاتھ سے مارتے وقت کھلاڑی کی کہنی میں ختم ہونا چاہیے۔ جب کھلاڑی گیند کو مار پھی تو پہلو کی طرف جسم موڑے تاکہ نہ تو جال کو پھٹھونے پائے اور نہ ہی گرتے وقت مرکزی لائن کو عبور کر جائے۔

نیٹ بال (Netball)

نیٹ بال ایک ٹائم کھیل ہے۔ اس کی ٹائم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ باسک بال کی طرح اس میں بھی گیند کو رنگ میں اوپر کی جانب سے ڈال کر گول کیا جاتا ہے جو مختلف ٹائم کی کورٹ کی اختتامی لیکھ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کھلاڑی اپنے ساتھی کو گیند پھیک کر پاس دے سکتے ہیں، لیکن اسے پکڑ کر دوڑ نہیں سکتے۔ کھلاڑیوں کو کورٹ میں مخصوص علاقوں میں پاندھ کیا جاتا ہے۔ نیٹ بال کا کھیل زیادہ تر ہوائیں کھیلا جاتا ہے اور شاز و نادرتی گیندز میں کوئی تجوہ نہیں۔

سائیڈ لائن کی ایک چانی 10.16 میٹر




لہائی 30.50 میٹر
کورٹ کی چومنی

"کورٹ" (Court)

- پر 30.50 میٹر لمبا اور 25.15 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ لمبائی میں صد و کی لکھریں "سائینڈ لائز" اور چوڑائی میں لکھریں "گول لائز" کہلاتیں گی۔
- کورٹ تین مساوی حصوں میں تقسیم ہو گا، جس میں سے ایک حصہ مرکزی تھا (Centre Third) اور باقی دو حصے گول تھائی (Goal Third) ہیں۔
- ہر گول تھائی (Goal Third) میں گول لائن کے نصف کو مرکز مان کر 4.88 میٹر نصف قطر کا نصف دائرہ لگایا جائے اور اس نصف دائرے میں جو جگہ بھر جائے "شوٹنگ سرکل" (Shooting Circle) کہلاتے گی۔
- کورٹ کے درمیان 0.91 سینٹی میٹر قطر کا دائرہ لگایا جائے گا جسے مرکزی دائرہ کہتی گے۔
- تمام لکھریں 5 سینٹی میٹر سے زیادہ چوڑی نہیں ہوں گی اور یہ کورٹ میں شامل تصور ہوں گی۔

"گول پوسٹ" (Goal Posts)

ہر گول لائن کے وسط پر ایک ایک "گول پوسٹ" اس طرح رکھایا لگایا جائے گا کہ اس کا "کورٹ" کی جانب کا پہلو "بیک لائن" کے باہر والے کنارے کو بخوبی چاہیے۔ یہ ایک معمودی کعبہ پر مشتمل ہو گا جو گول یا چوڑہ ہو سکتا ہے اور اس کا قطر یا موٹائی 6.5 سے 10 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ لوہے کا ہاہا ہوا ایک "رینگ" لگا ہو گا جس کی موٹائی 15 سینٹی میٹر ہو گی اور جو "گول پوسٹ" سے 15 سینٹی میٹر "کورٹ" میں اندر کی جانب لگا ہو گا۔ اس کا اندر وہی قطر 38 سینٹی میٹر ہو گا اور یہ رینگ کی طرف سے 3.05 میٹر کی بلندی پر ہو گا۔ اس کے ساتھ جانی لگی ہوئی ہو گی۔ "رینگ" (Ring) "گول پوسٹ" (Goal Post) کے میں اور والے سرے کی طرف کے برابر اور زمین کے متوازی لگا ہو گا، اگر "گول پوسٹ" پر خاتمی غلاف چڑھا ہو تو اس کی گہرائی کی موٹائی 2.5 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے اور اسے پورے "گول پوسٹ" پر لگا ہونا چاہیے۔



"گول پوسٹ" (Goal Post) کے میں اور والے سرے کی طرف کے برابر اور زمین کے متوازی لگا ہو گا، اگر "گول پوسٹ" پر خاتمی غلاف چڑھا ہو تو اس کی گہرائی کی موٹائی 2.5 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے اور اسے پورے "گول پوسٹ" پر لگا ہونا چاہیے۔

گیند (Ball)

گیند کا میٹا 69 سے 71 سینٹی میٹر اور وزن 400 سے 450 گرام تک ہو گا۔ یہ چہرے دربریا کسی موزوں مادے کا بنانا ہو گا۔

کھیل کا دورانیہ (Duration of the Game)

کھیل پندرہ چند روز میں کھیل کا نصف وقت کے چار حصوں پر منقسم ہو گا۔ پہلے اور دوسرے، تیسرا اور چوتھا ایک چوتھائی حصوں کے درمیان تین تین منٹ کا وقفہ اور کھیل کا نصف وقت گزرنے پر پانچ منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ کھیل کے پہلے، دوسرے اور تیسرا چوتھائی حصوں کا

وقت ختم ہونے پر دونوں ٹیموں کو اطراف (Sides) پہنچا ہوں گی، جو وقت کسی حادثہ یا کسی اور وجہ سے شائع ہوا ہو، وہی ایک چھپتی کی سے میں شامل کیا جائے جس میں وہ شائع ہوتی، اگر کھل کے کسی ایک چھپتی کی سے کے اختتام سے پیشہ "پہنچی پاس، پہنچی پاس یا شات" دیا گیا ہو تو اسے مکمل کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے گا۔

آفیشلز (Officials)

امپارز (Scorers)	(Match Officials)
اور تیم کپریز (Time Keepers)	
منجر (Captain)	(Team Officials)
اور اینڈیمیکر نیچرل پرنسپل (Primary Care Personnel)	تیم آفیشلز (Team Bench)
تیم آفیشلز اور ان پانچ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کورٹ میں کھیل نہیں رہتے۔	امپارز (Umpires)

دونوں ہی "امپارز" یعنی کورٹوں کریں گے۔ ان کا فیصلہ حقی ہو گا جس کے خلاف کوئی ایلیٹ نہیں ہو گی۔ ان کا مخصوص یوں بیفارم ہوتا ہے، جو کھلاڑیوں سے منفرد ہو گا اور عمومی طور پر اس کا رنگ سفید یا موٹیا (Cream Colour) ہوتا ہے۔

فرائض (Responsibilities):

- کھیل کے آغاز سے پیشہ امپارز کے فرائض میں کورٹ اور تمام متعلقہ سامان کی جانش پرستی کرنا اور اس کے معیاری ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد اس کے استعمال کی منحوری دینا اور کسی بھی کھلاڑی کو اسی کوئی چیز پہنچنے کی اجازت نہ دینا جو وہ سرے کے لیے غلطناک ہو یا جس سے رُخی ہونے کا احتمال ہو، (اس میں زیر انتہی شامل ہیں)۔
- جب تمام کھلاڑی کورٹ میں اپنی مخصوص جگہوں پر کھڑے ہو جائیں تو دونوں امپارز آپس میں سکد اچھال کر "گول اینڈ" (Goal End) کے چڑاؤ کا فیصلہ کریں گے اور جو امپارز اس جیت جائے گا وہ کورٹ کے اس حصے میں فرائض انجام دے گا جسے شمال نصف حصہ (Northern Half) کے نام سے مقبول کیا جاتا ہے ہر "امپارز" "کورٹ" کے اپنے مختص کردہ حصے میں فیصلہ دینے کا مجاز ہو گا اس مقصد کے لیے کورٹ کو لمبائی کی لکیروں کے درمیان میں ایک فرشی لکھر کے ذریعے آدھا آدھا تقسیم کر لیا جاتا ہے اور اسی کے اختتام تک وہ اپنے اسی مختص شدہ حصے میں کھل کی تکریبی کے فرائض انجام دے گا۔ اپنی نزدیکی "سائینڈ لائن" اور "گول لائن" پر ہونے والے "تحر و ان" کے باضابطہ یا بے باضابطہ ہونے کا تین کرنے کے ساتھ ساتھ اس گول کا بھی فیصلہ دے گا جو اس کے مختص حصے میں ہوا ہو۔ عام طور پر وہ اپنے فرائض کورٹ سے باہر رہ کر انجام دیتے ہیں مساوی "ہاس اپ" یا چھپ فیصلہ دینے کے لیے کورٹ میں داخل ہونا ضروری ہو۔
- وہ کسی بھی بے شایطکی کی صورت میں "فری پاس"، "پہنچی شات"، "پہنچی پاس یا پہنچی شات"، "تحر و ان" اور "ہاس اپ" دیں گے۔ وہ ایسے تمام امور پر فیصلہ دینے کے با اختیار ہیں جو مرد و جنہوں اطباء کے زمرہ میں نہیں آتے، جب

کوئی کھلاڑی کسی بے ضابطگی کا مرتبہ پایا جائے تو اپار کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بے ضابطگی کی نمائندگی اور اس سلسلہ میں دی جانے والی سزا کو بھی وقیع اشارے سے واضح کریں۔

-VII
وہ کسی کھلاڑی کو ہدایات دینے یا "کوچنگ" (Coaching) کرنے یا کسی کے کھیل پر تقدیر کرنے کے مجاز نہیں۔

-VIII
بے ضابطگی کی صورت میں اپار کو اس وقت تک سیٹی بھانے میں تاخیر کرنی چاہے جب تک کہ اسے پختہ قیمت نہ ہو جائے کہ اب یہ بے ضابطگی کرنے والی ٹیم کے خلاف کے مقابل میں نہیں رہا۔

-IX
وضاحت طلب امور پر باہمی صلاح مشور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں اپار سیٹی بھاتا ہے:

(i) کھیل شروع کرنے اور اس روکنے کے لیے۔ (ii) کھیل کے ہر ایک چوتھائی ذورانیہ کے اختتام پر۔

(iii) کسی بھی بے ضابطگی کے سرزد ہونے پر۔ (iv) جب گول سکور ہو جائے۔

(v) تمام کیپر کو گھری روکنے کا اشارہ کرنے کے لیے۔

سکوررز (Scorers)

ہر گیم کے لیے دو سکوررز مقرر کیے جائیں گے جو کھیل میں سکور ہونے والے تمام گولز کا خدا گانہ طور پر حساب رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ہر گیم کے لیے ایک "کالر" (Caller) اعلان کننے بھی مقرر کیا جائے گا جو کھیل کے ذوران سکور ہونے والے اور خطا ہونے والے "گولز" (Goals) کا با آواز بیندا اعلان کرے گا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہر کھلاڑیوں کے نام "سکورٹ" پر درج کرے گا۔ اس کے علاوہ متبادل کھلاڑیوں کا بھی حساب رکھیں گے۔

ٹائم کیپر (Time Keepers):

ہر "گیم" کے لیے دو "ٹائم کیپر" مقرر کیے جائیں گے۔ کھیل کا ہر حصے کے آغاز کا وقت درج کرے گا اور کھیل کے ہر ذورانیہ کے وقت کا حساب رکھے گا اور ان کے اختتام کو سیٹی بھاکر واضح کرے گا، اگر کسی وجہ سے اپار کھیل کو وقیع طور پر روکنا چاہیے تو وہ سیٹی بھاکر "ٹائم کیپر" کو وقیع طور پر گھری روکنے کے لیے اشارہ کرے گا اور وہ اس امر کو قیمتی بنائے گا کہ کھیل کو وقیع طور پر روکنے اور کسی وجہ سے ضائع شدہ وقت کو اسی چوتھائی ذورانیہ میں ہی شامل کیا جائے۔

ٹائم آفیشلر (Team Officials):

"ٹائم آفیشلر" اپنے کھلاڑیوں کے روپیے کے ذمہ دار ہوں گے۔ غیر اخلاقی زبان اور روپیہ کی صورت میں بھی قابل قبول نہیں۔ وہ کھلاڑی تبدیل کرنے یا کھلاڑیوں کی پوزیشنوں میں رد و بدل کرنے کے لیے "سکورر" اور خلاف "ٹائم آفیشلر" کو باقاعدہ ضابطگی آگاہ کریں گے۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی صرف وقیع طور پر رکے ہوئے کھیل کے ذوران یا کھیل کے ایک چوتھائی ذورانیوں کے درمیان وقفوں کے ذوران میں ہی ممکن ہے۔ "ٹائم آفیشلر" اور پیغپیغہ ہوئے کھلاڑیوں کو "کورٹ" سے باہر "سائید لائن" اور "بیک لائن" کے ساتھ ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جائز ٹھکائیت "جیوری آف ایبل" سے کر سکتے ہیں جس کا فیصلہ فوری طور پر کیا جائے گا۔

ٹیم کپیشن (Team Captain)

کھیل سے جو شتر "گول پوسٹ" چنے یا پہلے "سنٹر پاس" کے لیے سکد اچھا کر "لاس" کرنے اور "امپاڑ" کو اپنے اختاب سے آگاہ رکنا ہوتا ہے۔ کھیل کے دوران اگر وہ اپنے کسی کھلاڑی کو تبدیل کرنا یا ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو معمول کے وقوف کے دوران یا چوت گنگے کی صورت میں رکے ہوئے۔ کھیل کے دوران اسے "امپاڑ" اور خالف "کپیشن" کو اس بات سے آگاہ رکنا ہو گا۔

وقتی طور پر رکے ہوئے کھیل یا ایک چوتھائی دورانی کے درمیانی وقوف میں یا کھیل کے اختتم پر وہ "امپاڑ" سے کسی بھی ضابطے کی وضاحت حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی ٹیم خالف "ٹیم آفیشل" کو یعنی اطلاع کی بغیر اپنا کوئی کھلاڑی تبدیل کر لے یا ان کے کھینے کی مخصوص جگہوں میں تبدیلی کر لے تو وہ "امپاڑ" سے اس کے خلاف "ایبل" کرنے کا حق رکھتا ہے۔ "امپاڑ" کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ "ٹیم کپیشن" کو اس کی ٹیم کے کسی کھلاڑی کو متبر کرنے، عارضی یا مستقل طور پر "گیم" سے خارج کرنے کے متعلق آگاہ کرے۔

ٹیم (Team)

کسی بھی ٹیم میں صرف ایک ہی صفت (Gender/Sex) کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (1) "گول شوڑ" | (Goal Shooter - GS) |
| (2) "گول ایک" | (Goal Attack - GA) |
| (3) "ونگ ایک" | (Wing Attack - WA) |
| (4) "سنٹر" | (Centre - C) |
| (5) "ونگ ڈینس" | (Wing Defense - WD) |
| (6) "گول ڈینس" | (Goal Defense - GD) |
| (7) "گول کپیشن" | (Goal Keeper - GK) |

ہر کھلاڑی کی نیچیں پر سامنے اور پیٹ پر جملی حروف میں کھیل میں اس کی "پوزیشن" کے ابتدائی حروف (Initials) کی نسبت سے لکھئے ہوئے ہونے چاہے جن کی لمبائی 10 - 15 سینٹی میٹر ہو گی۔

کوئی ٹیم اس وقت تک کھیل شروع نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کم از کم 5 کھلاڑی کو رٹ میں حاضر نہ ہوں اور ان میں سے ایک کو "سنٹر" کی پوزیشن پر کھیلانا لازمی ہے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلی ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 کھلاڑیوں کے نام دے سکتی ہے۔ "ٹیم آفیشل" جب اور جتنے کھلاڑی انہیں 12 کھلاڑیوں میں سے تبدیل کر سکتی ہے، (کھلاڑیوں کے تبدیل ہونے کی تعداد یا ایک ہی کھلاڑی کے باہر ہارتبدیل ہونے پر کوئی پابندی نہیں)۔

دیر تاخیر سے آنے والے کھلاڑی (Late Arrivals)

کھیل شروع ہونے کے بعد آنے والے کھلاڑیوں کو حق نہیں کہ وہ اپنی پسند سے کسی مخصوص جگہ پر کھیل سکتیں بلکہ وہ کھلاڑیوں کی تبدیلی یا ان کی پوزیشنوں میں رو و بدل کے ضابطوں کے تحت ہی "کورٹ" میں داخل ہو سکتے ہیں اور صرف انہی جگہوں پر حصہ لے سکتے

ہیں جو اس وقت خالی ہیں۔ کھیل میں شامل ہونے کے لیے ان کو "امپاٹر" سے اجازت لجی ہوگی۔ وہ کورٹ میں صرف درج ذیل اوقات پر داخل ہو سکتے ہیں۔

- جب "گول" "سکور" ہو جائے۔ یا

ii- کھیل کے مختلف ذوراتیوں کے درمیانی وقتوں کے اختتام پر۔ یا

iii- جب کسی کھلاڑی کے زخمی ہونے کی صورت میں کھیل کو توقی روکا گیا ہو۔

اس شاید کی خلاف ورزی پر بے ضابطی کرنے والی ٹیم کے مقابلہ "ٹیم" کو اسی جگہ سے "فری پاس" دیا جائے گا جہاں اس وقت گیند تھا اور نہ کورہ کھلاڑی کو اس وقت تک کے لیے "کورٹ" سے باہر بچھ دیا جائے گا جب تک کہ کوئی "گول" "سکور" نہ ہو جائے یا کھیل کے اس ذوراتی کا وقت ختم نہ ہو جائے۔


کھلاڑیوں کی تبدیلی یا ان کی پوزیشنوں میں رو بدل (Substitution and Team Changes)

کھلاڑی کی تبدیلی اس وقت مکمل صورت ہوگی جب تک کہ اس کی ٹیم کا نہ کورہ کھلاڑی "کورٹ" سے باہر چلانے جائے اور اس کی جگہ دوسرا نہ لے۔ ٹیم کی پوزیشنوں میں رو بدل سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ٹیم "کورٹ" میں اپنے کھلاڑیوں کی پوزیشنوں میں تبدیلی کرے۔

کھلاڑی کی تبدیلی یا ان کی پوزیشنوں میں رو بدل درج ذیل موقعوں پر کی جاسکتی ہے:

- کھیل کے ایک چھتائی ذوراتی کے اختتام پر۔

ii- کسی کھلاڑی کے زخمی ہونے یا کسی حادثہ کی بنابر کھیل کو توقی طور پر روکا گیا ہو۔



جب بھی کوئی "لیم" کھلاڑی تبدیل کرنے یا "لیم" کی کھینچ کی پوزیشنوں میں روپ بدلتی فرماش کرے تو مختلف نیم کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اس دوران ایسا کر لے، کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے یا ایک ہی کھلاڑی کو بار بار تبدیل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لیکن اگر کسی "لیم" کے تبدیل شدہ کھلاڑیوں کی کل تعداد 12 سے تجاوز کر جائے تو بے ضابطی پر مختلف نیم کو اسی جگہ سے "فری پاس" دیا جائے گا۔ جہاں اس وقت گیند تھا اور نہ کھلاڑی (تیر وال کھلاڑی) کو "کورٹ" سے بے خل کر دیا جائے گا اور "لیم" کا بھایا دورانیہ میں اس کی جگہ خالی رہے گی۔ ماسوائے "سنتر" کے، اس صورت میں کورٹ میں کھینچنے والا کوئی بھی کھلاڑی اس کی جگہ کوپر کر سکتا ہے لیکن وہ "لیم" ایک کھلاڑی کم سے کھینچے گی۔

کھیل کا دورانیہ (Duration of the Game)

- 1- چوت لگنے یا کسی کھلاڑی کے پیارہ ہو جانے کی صورت میں کورٹ میں حاضر کوئی بھی کھلاڑی امپاڑے کھیل کو عارضی طور پر روکنے کے لیے درخواست کر سکتا ہے لیکن یہ "امپاڑہ" کی صواب دید پر محض ہے کہ وہ اس کی درخواست قبول کرے یا رد کرے۔
- 2- اگر "امپاڑہ" کھلاڑی کی درخواست کوچاڑ سمجھتا ہے تو وہ "نامم کپہر" کو گھری روکنے کا اشارہ کرے گا۔ اس مصن میں کھیل کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کے لیے روکا جاسکتا ہے اس دوران "لیم آفیٹلر" کو یہ فیصلہ کرنا ہو گا کہ نہ کورہ کھلاڑی کھیل جاری رکھے گا اپنیں۔
- 3- جب اس طرح سے کھیل روکا جاتا ہے تو دونوں نیوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی "لیم" کا کوئی بھی کھلاڑی تبدیل کر لیں یا ان کے کھینچنے کی پوزیشنوں میں روپ بدلت کر لیں۔ زخمی یا پیارہ کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ اسے تبدیل کر دیا جائے یا اس کے لیے کھینچنے کی "پوزیشن" میں روپ بدلت کی جائے۔
- 4- کھیل کے اجرا کے لیے "امپاڑہ" "نامم کپہر" کو گھری چلانے کا اشارہ کرے گا اور کھیل دوبارہ اسی جگہ پر سے شروع ہو گا جہاں اس وقت گیند تھی۔ ماسوائے اگر گیند کورٹ سے باہر ہو تو کھیل کا اجر "تھروان" سے کیا جائے گا۔
- 5- جب "امپاڑہ" فیصلہ کر پائے کہ گیند کس کھلاڑی کے قبضہ میں ہے یا اس وقت گیند زمین پر ہو تو اس صورت میں کھیل کا اجر "ناس اپ" کے ذریعے اسی جگہ پر سے ہو گا جہاں اس وقت گیند تھا۔ "ناس اپ" ان دونوں مختلف کھلاڑیوں کے درمیان کیا جائے گا جنہیں اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے۔
- 6- اگر کھیل میں رکاوٹ ڈالنے یا کراؤ کی صورت میں کھیل روکا گیا ہو تو متأثر نیم کو جائے قوع پر "پینٹلی پاس"؛ "پینٹلی پاس یا شٹ"
- 7- اس جگہ پر سے دی جائے گی جہاں بے ضابطی کرنے والا کھلاڑی اس وقت کھڑا تھا۔
- 8- اگر مجروم یا پیارہ کھلاڑی کو تبدیل نہیں کیا جاتا بلکہ وقت طور پر اسے کورٹ سے باہر لے جایا جاتا ہے تو وہ "امپاڑہ" کی اجازت سے دوبارہ کھیل میں شامل ہو سکتا ہے لیکن اسے اس جگہ پر ہی کھینچنا ہو گا جو اس وقت خالی ہے اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب "گول" "سکور" ہو جائے یا کھیل کو حادثاتی طور پر روکا گیا ہو یا کھیل کے ذریعنوں کے ذریعنوں کے درمیانی وقتوں کے ذریعنوں میں اس شق کی خلاف ورزی پر مختلف نیم کو اسی جگہ پر سے "فری پاس" دیا جائے گا جہاں اس وقت گیند تھا اور بے ضابطی کرنے والے کھلاڑی کو "کورٹ" سے اس وقت تک کے لیے باہر بچھ دیا جاتا ہے جب تک کہ مندرجہ بالائی کے تحت کھیل دوبارہ رک نہ جائے۔

اگر مجروح کھلاڑی کا خون بہرہ ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو اسے کورٹ سے باہر لے جا کر ابتدائی طی امداد مہیا کی جائے اور کھیل کو معمول کے وققے کے اختتام پر شروع کر دیا جائے۔ زخمی کھلاڑی اس وقت تک کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مرہم پہنچنے ہو جائے۔

کھلاڑیوں کے لیے علاقے کا تھیں:

2,1	:	(i) "گول شوفر"
3,2,1	:	(ii) "گول انیک"
3,2	:	(iii) "ونگ انیک"
4,3,2	:	(iv) "سنٹر"
4,3	:	(v) "ونگ ڈینس"
5,4,3	:	(vi) "گول ڈینس"
5,4	:	(vii) "گول کپر"

اسی لیکر میں جو کسی علاقے کو میخیط کیے ہوں اسی علاقے کا حصہ شمار ہوں گی۔

آف سائینڈ (Off Side):

اگر کوئی کھلاڑی گیند یا اس کے بغیر اپنے مختص کردہ علاقوں کی بجائے کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے تو وہ "آف سائینڈ" گردانا جائے گا۔ اس بے ضابطگی پر مختلف نیم کو اسی جگہ پر سے "فری پاس" دیا جائے گا تاہم کھلاڑی با تھہ بڑھا کر دوسرے علاقے کے اندر سے لیکن زمین چھوئے بغیر گیند پکڑ سکتا ہے۔

اگر وہ مختلف کھلاڑی ایک وقت "آف سائینڈ" ہو جائیں لیکن ان میں سے کوئی کھلاڑی بھی گیند کو چھوئیں پاتا تو انہیں سزا نہیں دی جائے گی اور کھیل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ لیکن اگر ان میں کوئی ایک کھلاڑی گیند کو پکڑ یا چھو لے تو وہ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ان کے مخصوص علاقے میں "ناس اپ" کیا جائے گا۔

لیکن اگر وہ کھلاڑی اس پاس کے علاقوں میں سے ہوں تو اس صورت میں ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان "سنٹر تھرڈ" میں "ناس اپ" کیا جائے گا جنہیں اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے۔ دیر سے آنے والے کھلاڑیوں کا امپار بخور معاون کرنے کے بعد ان کو "کورٹ" داخل ہونے کی اجازت دے گا، مثلاً انکیوں کے ناخنوں کی لمبائی، زیورات اور "جیونیفارم" وغیرہ وغیرہ۔

گیند کا کورٹ سے باہر تصور ہونا (Ball out of Court)

گیند کا کورٹ میں اس وقت نہیں رہتی جب یہ کورٹ کی حدود سے باہر زمین، کسی آدمی یا جیز کو چھو لے یا اسے کوئی ایسا کھلاڑی پکڑ لے جو کورٹ کی حدود سے باہر زمین، کسی آدمی یا جیز سے چھو رہا ہو۔ اس بے ضابطگی پر مختلف نیم کو اسی جگہ پر سے "تحرہ ان" دی جائے۔

لیکن اگر وہ گول پوت کے کسی حصے کو لگ کر واپس آجائے تو یہ کورٹ کی حدود میں ہی تصور ہوتی ہے۔

ای طرح جب کسی کھلاڑی کے پاس گیند ہوا وہ کورٹ کی حدود سے باہر نہیں، کسی آدمی یا چیز کو بخوبی لے تو وہ کورٹ کی حدود میں تصور نہیں ہوتا۔ اس بے ضابطگی پر مخالف نہیں کوہی جگہ پر سے "تحریر ان" دی جائے۔

لیکن اگر وہ مختلف کھلاڑی گیند کو بیک وقت پلاتے ہوئے دونوں ہی یا ان میں کوئی ایک "کورٹ" کی حدود سے باہر چلا جائے تو "کورٹ" میں اس جگہ کے نزدیک ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان "ناس اپ" کیا جائے گا۔ جہاں سے انہوں نے "کورٹ" کی حدود کو پار کیا تھا۔

کھیل شروع کرنے کے لیے کھلاڑیوں کی پوزیشن (Positioning of Players for Start of Play)

کھیل شروع ہونے سے پہلے دونوں نہیں کھلاڑیوں کے کھلاڑی ایک ساتھ مندرجہ میں جگہوں پر کھڑے ہوں گے۔

(i)

"گول شوٹر" اور "گول کپھر" مخصوص کردہ "گول سرکل" میں کھڑے ہوں گے۔

(ii)

"گول ایک" اور "گول ڈینس" مختلف "گول تحریر" میں اطرافی یکروں کے نزدیک اور وتری انداز میں ستر کی جانب منکر کے کھڑے ہوں گے۔

(iii)

ای طرح "ونگ ایک" اور "ونگ ڈینس" ایسا ہی انداز اپناتے ہوئے ان کی مخالف سمت میں اپنے اپنے مخصوص "تحریر" میں کھڑے ہوں گے۔

(iv)

"سٹر تحریر" میں صرف دونوں "سٹر" ہی کھڑے ہوں گے۔

"امپار" اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ تمام کھلاڑی اپنی اپنی مختص کردہ جگہوں پر موجود ہیں۔ کھیل شروع کرنے کے لیے گیند متعلقہ "سٹر" کو دے گا۔ اس کے جنم کا کوئی حصہ مرکزی دائرہ سے باہر نہیں سے بخوبی نہیں چاہیے۔ (دائرة کی کلیہ بھی دائرہ کا حصہ ہے) اس کے دونوں پاؤں دائرہ میں ہوتے لازمی ہیں۔ جبکہ مختلف "سٹر" "سٹر تحریر" میں کسی بھی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔

کھیل کے آغاز کے لیے امپار کی سینی بجائے سی پیشہ "سٹر" کے علاوہ کسی بھی نہیں کا کوئی دوسرا کھلاڑی "سٹر تحریر" میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس ضابطگی خلاف ورزی پر مخالف نہیں کوہی جگہ سے "فری پاس" دیا جائے گا۔ جہاں یہ بے ضابطگی ورزہ ہوئی ہو۔

لیکن اگر وہ مختلف ہے۔ وقت اس بے ضابطگی کے مرکب پائے جائیں اور وہ دونوں ہی گیند کو بخوبی پائیں تو ان کے خلاف کوئی تادیجی کا روائی نہیں کی جائے گی اور کھیل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔

لیکن اگر ان میں سے صرف ایک گیند کو بخوبی پائی جائے تو ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان "ناس اپ" اسی جگہ پر کیا جائے گا۔ جہاں یہ بے ضابطگی ہوئی ہو۔

کھیل کا اجرا (Starting of Game)

"امپار" کھیل شروع کرنے کے لیے سینی بجائے گا۔ کھیل کا شروع ہر گول یا ہر چوتھائی دورانی کے بعد اجرا "سٹر پاس"۔

ہوتا ہے۔ جسے دلوں نیوں کے "سنفرز" کھیل کے اختتام تک باری باری کرتے جاتے ہیں۔

جب کھیل کا اجرا ستر پاس سے ہونا ہو اور کھلاڑی درمیانی وائزے میں پاس کرنے کے لیے تیار کرنا ہو، لیکن گیند پھینکنے سے پیشتر ہی کھیل کے ایک پوچھائی ذور انسیکا وقت ختم ہو جائے تو وقف کے بعد وہی "ٹیم" کھیل کا دوبارہ اجرا "ستر پاس" کے ذریعے کرے گی۔

"امپاڑ" کے سینی بجائے پر دوسرے تمام کھلاڑی آزادانہ طور پر اپنے اپنے خصوص شدہ علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ "ستر پاس" کرنے والے "سنفرز" پر لازم ہے کہ وہ 3 سینکڑے کے اندر اندر گیند کسی دوسرے کھلاڑی کی طرف پھینک دے۔

"ستر پاس" صرف "سنفرز" میں داخل ہونے کے مجاز کھلاڑی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کھلاڑی کا اگلا پاؤں "سنفرز" میں کمل طور پر آجائے تو یہ تصور کیا جائے کہ اس نے گیند "سنفرز" میں وصول کیا ہے اور اسی حالت میں پھینکی ہوئی گیند بھی "سنفرز" میں سے پھینکی ہوئی تصور ہوگی۔

"ستر پاس" کرنے والی ٹیم کا کوئی کھلاڑی "گول تحرز" میں گیند کو اس وقت تک کھیل نہیں سکتا جب تک کہ "سنفرز" میں اسے کسی اور کھلاڑی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اس بے ضابطگی پر مختلف ٹیم کو اسی جگہ سے "فری پاس" دیا جائے گا جہاں سے گیند "گول تحرز" میں داخل ہوا ہو۔

اگر گیند "سنفرز" میں سے کسی کھلاڑی کو بھروسے بغیر کوئٹہ کی "سانیدہ لائن" سے باہر پڑی جائے تو مختلف ٹیم کو اس جگہ سے "تحرر و ان" دیا جائے گا جہاں سے گیند نے کیر کو عبور کیا ہو۔

اگر گیند کسی کھلاڑی کو بھروسے بغیر "گول تحرز" میں چلی جائے تو مختلف ٹیم کو "فری پاس" "سنفرز" میں اس جگہ سے دیا جائے گا جہاں سے گیند "گول تحرز" میں داخل ہوئی تھی۔

اگر گیند "گول تحرز" میں چلی جائے اور مختلف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اسے پکڑ لے تو کھیل معمول کے مطابق جاری رہے گا اور اس کھلاڑی کی پاس کردہ گیند "گول تحرز" میں سے کھیلا ہوا تصور کیا جائے۔

گیند کو کھینا (Playing the Ball):

کھلاڑی گیندا ایک یادوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھیل سکتا ہے۔ "گول پوسٹ" سے لگ کر اچھنے والے گیند کو پکڑ سکتا ہے۔ اس پر کمل بقدر حاصل کرنے سے پہلے اسے کسی دوسرے کھلاڑی کی طرف پر دے کر یا ہاتھ سے مار کر بھیج سکتا ہے اور لڑھتے ہوئے گیند کو پر دے کر یا پکڑ کر کھیل سکتا ہے لیکن ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیند کو 3 سینکڑے سے زیادہ رکھنیں سکتا۔

کھلاڑی کو مدد بجذبیل کرنے کی اجازت نہیں:

گیند کو مٹی ہند کر کے مارنا، گیند پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس پر گر جانا یا لیٹ جانا، گیند کو ہوا میں اچھال کریا زمین پر پھینک کر کسی دوسرے کے پکڑنے سے پہلے خود ہی پکڑ لینا، زمین پر لینے لیئے یا گھنٹوں کے بل بیٹھے ہوئے گیند کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جان بوجھ کر گیند کو "سک" (Kick) کرنا (یعنی اگر حادھاتی طور پر گیند کھلاڑی کی ناچ کو لگ جائے تو یہ بے ضابطگی کے زمرہ میں نہیں آتا)، گیند پکڑ کر زمین پر پاؤں گھینٹانا یا پھینکانا، کسی پاؤں پر سے ہست لگانا، ہاتھ سے گیند لٹکنے سے پیشتر ایک پاؤں سے کوکروں پاؤں پر گرنا، "گول" کرنے کی ایسی ناکام کوشش کے بعد جس میں گیند "گول پوسٹ" کو نہ لگ پائے اسے خود ہی پکڑ لینا،

زمین پر لیٹ کر گیند پھینکنا، اپنے آپ کو "آف سائینڈ" ہونے سے بچانے کی خاطر یا تو ازن برقرار رکھنے کے لئے گیند پر تھک جانا، گیند کو پکڑ کر دوڑنا، گیند کو کسی مکمل ایک تہائی کے اوپر سے پھینکنا، باہر جاتی ہوئی گیند کو حاصل کرنے کی کوشش میں سامنی کھلاڑی یا "گول پوسٹ" کا سہارا لینا وغیرہ وغیرہ۔

مندرجہ بالا ضوابط کی طاف ورزی پر مخالف ٹیم کو اسی جگہ سے "فری پاس" دیا جائے گا جہاں پر یہ بے ضابطی سرزد ہو گی۔

گیند کو کھیلتے وقت پاؤں کی حالت (Footwork):

کھلاڑی گیند کو پکڑ کر چل، دوڑ یا کوئی نہیں سکتا۔ گیند پکڑتے وقت اگر اس کے دونوں پاؤں زمین پر ہوں یا اچھل کر پکڑنے کی صورت میں یہ زمین پر ایک ساتھ لگتیں تو وہ ان میں سے ایک پاؤں کو زمین پر لٹکا کر دوسرے پاؤں سے کسی سمت میں جتنے قدم چاہے لے سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاؤں کیکے بعد دیگرے لگتیں تو زمین پر لٹکنے والا پاؤں "پیوٹ فٹ" (Pivot Foot) تصور ہوتا ہے اور وہ بعد میں زمین پر لٹکنے والے پاؤں اسی سے قدم لینے کا صحابہ ہے۔ کھلاڑی لٹکنے ہوئے پاؤں پر چاروں طرف بھی گھوم سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں کھلاڑی زمین پر جما ہوا پاؤں بھی اٹھا سکتا ہے بشرطیکہ اس کے دوبارہ زمین پر لٹکنے سے پیشتر گیند اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس بے ضابطی کی صورت میں مخالف ٹیم کو اسی جگہ پر سے "فری پاس" دیا جائے گا۔

گول سکور کرنا (Scoring a Goal):

1- اگر "گول شوڑ" یا "گول ایک" نے "گول سرکل" میں سے گیند پھینکا ہو یا ہاتھ سے مارا ہو اور گیند "رینگ" کے اوپر سے مکمل طور پر اندر چلا جائے تو گول ثابت ہو گا۔

(i) اگر گول کسی دوسرے کھلاڑی نے کر دیا ہو تو یہ گول ثابت نہیں ہو گا اور کھیل جاری رہے گا۔

(ii) دفاعی کھلاڑی اگر گول میں جاتے ہوئے گیند کو بخواہ لے لیکن اس کے باوجود بھی گیند "رینگ" میں چلا جائے تو گول تصور ہو گا۔

(iii) اگر اسپاڑ کھیل کے ایک چوتھائی ذورانیہ، نصف یا پورے کھیل کے اختتام پر سیئی ہجادے اور اس کے بعد گیند "رینگ" میں سے گزرا جائے تو گول ثابت نہیں ہو گا۔

(iv) گول کرتے وقت مداخلت (Obstruction) نہیں کی جاسکتی۔

2- "پینٹی شاٹ" میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔ "پینٹی شاٹ" دیے جانے کے بعد اس کھیل کے ایک چوتھائی ذورانیہ، نصف یا پورے کھیل کا وقت فتح ہو جائے تو بھی "پینٹی شاٹ" لگانے کے لیے ہر یہ وقت دیا جائے گا۔ اس کے لگائے جانے کے ذور ان اگر کوئی دفاعی کھلاڑی "گول پوسٹ" کو ہلا دے تو "پینٹی شاٹ" دوبارہ لکھا یا جائے گا۔

ذاتی فاؤل (Personal Fouls):

گیند یا اس کے بغیر کوئی کھلاڑی داشت طور پر بغرض مداخلت کھلاڑی کو اس طرح سے دھکا دے یا تاگ اڑائے جس کی بنابر وہ ناموافق حالات سے دوچار ہو جائے یا اس کے ہاتھ سے گیند جیسے کی کوشش کرے یا کھلاڑی کے تمام ایسے افعال یا حرکات جو مخالف کو ڈرانے دھکانے کی خاطر کی جاتی ہیں۔ اسی زمرے میں آتی ہیں۔

رکاوٹ/مداخلت (Obstruction):

جب دفائی کھلاڑی گیند پر تابعیں کھلاڑی سے 90 سینچی میٹر سے کم فاصلے پر چلا جائے تو اسے رکاوٹ/مداخلت کا مرکب گروہنا جاتا ہے۔ گیند کو اڑان کے ذور ان پکڑنے کی کوشش بھی اتنے ہی فاصلے سے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ قابلہ ان دونوں کھلاڑیوں کے نزدیک ترین پاؤں کے درمیانی فاصلے سے متین کیا جاتا ہے۔

بے ضابطگی کی صورت میں پہنچی:

- (i) اگر "فاول"، "شوہنگ سرکل" سے باہر سر زد ہو خالف ٹیم کو اسی جگہ سے "پہنچی پاس" دیا جائے گا۔
 - (ii) لیکن اگر یہ "شوہنگ سرکل" کے اندر ہو تو "گول شوڑ" یا "گول ایک" کی مرشی ہے کہ وہ "پہنچی پاس" لے یا "پہنچی شاٹ"۔
 - (اف) پہنچی وہاں پر سے دی جائے گی جس جگہ پر بے ضابطگی ہوئی تھی۔
- (ب) بے ضابطگی کرنے والا کھلاڑی "پہنچی پاس" کرنے والے کھلاڑی کے نزدیک ہی کھرا رہے گا اور وہ کھیل میں اس وقت تک حصہ نہیں لے سکتا جب تک کہ گیند اس کھلاڑی کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔
- توٹ: "پہنچی پاس" کے ذور ان مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی جو کھلاڑی اس علاقے میں آنے کا مجاز ہے صرف وہ "پہنچی شاٹ" لے سکتا ہے۔

مکراو (Contact):

- 1 کھیل کے ذور ان کوئی کھلاڑی خلاف سے اس طرح سے گدرانے یا چھو نے کا مجاز نہیں جس کے باعث اس کا کھیل متاثر ہو جائے۔
- 2 کھیل میں جملہ اور یاد فائی ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کو گیند حاصل کرنے کی کوشش میں مندرجہ ذیل کرنے کی جازت نہیں:
 - (i) خلاف کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بننا۔
 - (ii) خلاف کو دھکا دینا، پکڑنا، خلاف کے اوپر تھک جانا یا کسی بھی طریقے سے جسمانی مکراو کا باعث بننا۔
 - (iii) خلاف کے قبضے میں گیند کو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چھین لینا۔
 - (iv) ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گیند سے خلاف کو دھکلانا۔
- 3 خلاف کھلاڑی کے اتنا نزدیک چلے جانا جس کی وجہ سے وہ بغیر گرانے حرکت نہ کر پائے۔
 مندرجہ بالا شقون کی خلاف ورزی پر خلاف "ٹیم" کو اسی جگہ سے "پہنچی پاس یا شاٹ" دیا جائے گا جہاں سے بے ضابطگی سر زد ہوئی ہو۔
 اگر دو خلاف کھلاڑی ایک ہی وقت پر اسکے گیند کو پکڑ لیں اور امپاری کی رائے میں کسی بھی کھلاڑی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی تو وہ ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان اسی جگہ پر "ٹاس اپ" کیا جائے گا۔

- 1 "کورٹ" میں جس جگہ بے ضابطی ہوئی ہو۔ اسی جگہ سے بے ضابطی کی نویت کے مطابق متعین کردہ سزاگیں دی جائیں گی۔
- 2 "ناں اپ" کے علاوہ دوسرے تمام "پہنچیر" میں بے ضابطی کرنے والی ٹیم کی مخالف ٹیم کا ایسا کوئی بھی کھلاڑی "پہنچی" لے سکتا ہے جو اس علاقے میں جانے کا مجاز اہل ہے۔
- 3 "امپارز" کے اشارہ کردہ جگہ پر گیند پکڑ لینے کے بعد کھلاڑی کو تین سینٹز کے اندر اندر پیچنک دناتا چاہے۔
- 4 "فری پاس"، "پہنچی پاس"، "پہنچی پاس یا شات" یا "تحر و ان" کے دوران زمین پر لگے ہوئے پاؤں سے متعلقہ ضوابط پر ختنی سے عمل کیا جائے گا۔
- 5 "فری پاس"، "پہنچی پاس"، "پہنچی پاس یا شات" کے دوران مندرجہ بالآخر (3) اور (4) کی خلاف درزی کی صورت میں مخالف ٹیم کو "فری پاس" دیا جائے گا۔

(Free Pass)

مخالف کھلاڑی کے کھیل میں رکاوٹ ڈالنے، بکراویا ایک ہی "ٹیم" کے ایک سے زیادہ کھلاڑیوں کا ہدوفتی بے ضابطی یا "گول پوس" سے متعلقہ ضوابط کی خلاف درزی پر متاثرہ "ٹیم" کو "فری پاس" دیا جائے گا۔

متاثرہ ٹیم کا صرف وہی کھلاڑی "فری پاس" کر سکتا ہے جو اس علاقے میں جانے کا اہل ہے۔ لیکن اسے گیند کو کسی بھی مکمل ایک تہائی کے اوپر سے پھینکنے کی اجازت نہیں (یعنی "فری پاس" صرف ساتھ والے ایک تہائی حصہ میں کیا جاسکتا ہے)۔

جب حملہ اور ٹیم کو "گول سرکل" میں "فری پاس" دیا جاتا ہے تو "پاس" کرنے والا کھلاڑی اس سے براور است "گول" نہیں کر سکتا۔ اس بے ضابطی پر مخالف ٹیم کو اسی جگہ پر سے "فری پاس" دیا جائے۔ "فری پاس" کرنے والا کھلاڑی ساکن حالت پٹانے کے بعد تین سینٹز کے اندر اندر گیند پیچنک گا۔

پنیٹی پاس، پنیٹی پاس یا شات (Penalty Pass, Penalty Pass or Shot)

- (i) مخالف کھلاڑی کے کھیل میں رکاوٹ/مداغلت یا اس کے ساتھ گراوہ کی صورت میں متاثرہ نیم کو جائے وقوع پر "پنیٹی پاس"۔ "پنیٹی پاس یا شات" دیا جائے گا۔
- (ii) "پنیٹی پاس" کے ذور ان "امپارز" اس امر کی تسلی کر لے گا کہ بے ضابطگی کرنے والے کھلاڑی کے نزدیک ہی کھڑا رہے اور وہ کھیل میں اس وقت تک حصہ نہ لے جب تک کہ گیند کھلاڑی کے ہاتھ سے نکلنے جائے۔
- (iii) "پنیٹی پاس"؛ "پنیٹی پاس یا شات"؛ مخالف نیم کا ہر وہ کھلاڑی کر سکتا ہے جو اس علاقوں میں جانے کا اعلیٰ ہے۔ پاس کردہ گیند کو اڑان کے ذور ان بے ضابطگی کرنے والے کھلاڑی کے علاوہ باقی تمام کھلاڑی روک یا کھیل سکتے ہیں۔
- (iv) اس طرح سے دیے گئے "پنیٹی پاس" کے ذور ان اگر مخالف "نیم" کا کوئی اور کھلاڑی گیند پھینکنے والے کھلاڑی سے چھو جائے تو "پنیٹی پاس" دوبارہ کیا جائے گا اور یہ دونوں ہی بے ضابطگی کرنے والے کھلاڑی کھیل میں اس وقت تک حصہ نہیں لے سکتے جب تک کہ گیند اس کھلاڑی کے ہاتھ سے نکلنے جائے۔
- (v) اگر کسی نیم کے دو کھلاڑی ہمہ وقت طور پر مخالف کھلاڑی کے کھیل میں رکاوٹ یا گراوہ کا باعث نہیں تو "پنیٹی پاس" کے ذور ان دونوں مذکورہ کھلاڑی اس وقت تک کھیل میں حصہ نہیں لے سکتے جب تک کہ گیند "پنیٹی پاس" کرنے والے کھلاڑی کے ہاتھ سے نکلنے جائے۔

"تھرو ان" (Throw In)

گیند پکڑنے کے دوران اگر کھلاڑی کے جسم کا کوئی حصہ "کورٹ" کی حدود کیلئے سے باہر زمین یا کسی اور پیچ کو بھو لے تو اس صورت میں مخالف نیم کو اسی جگہ سے "تھرو ان" دیا جائے گا۔ "تھرو ان" کرنے کی سیٹی بھانے سے پیشتر "امپارز" کو اس بات کی پوری تسلی کر لئی چاہیے کہ تمام کھلاڑی پوری طرح سے تیار ہیں۔

"ٹاس اپ" (Toss Up)

مندرجہ ذیل صورتوں میں کھیل کا اجراء "ٹاس اپ" سے ہوگا۔ جب دو مخالف کھلاڑی ہیک وقت کسی بے ضابطگی کے مرکب ہوں، مثلاً ہمسو قی "آف سائینڈ" ہو جائیں یا دو مخالف کھلاڑی گیند کو مضبوطی سے پکڑ لیں یا ہیک وقت گیند کو ہاتھ مار کر "کورٹ" سے باہر نکال دیں اور "امپارز" فیصلہ نہ کر پائے کہ آخری مرتبہ گیند کو کس کھلاڑی نے ہاتھ لگایا تھا یا اگر دو مخالف کھلاڑی آپس میں مکرا جائیں جس کی وجہ سے دونوں کھلاڑیوں کا کھیل متاثر ہو جائے۔

"ٹاس اپ" کیے ہوئے گیند کو پکڑا جاسکتا ہے یا سے ہاتھ مار کر کسی سمت میں بھیجا جاسکتا ہے۔

"ٹاس اپ" کے وقت باقی تمام کھلاڑی اپنے مخصوص علاقوں میں کسی بھی جگہ کھڑی ہو سکتے ہیں۔

اگر ”ناس اپ“ ”گول سرکل“ میں کیا جائے تو ”گول شوڑ“ اور ”گول ایک“ گیند پکڑنے کے بعد گول کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔

”ناس اپ“ کرنے کا طریقہ:

جائے وقوف پر دونوں ہاتھ کھلاڑی آئنے سامنے اپنے گول کی طرف مند کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے بازو پہلو کے ساتھ سیدھے ہوں گے اور ان کے نزدیک تین پاؤں کا درمیانی فاصلہ ”90 سینٹی میٹر“ سے کم نہیں ہوگا۔ امپار گیند بھٹلی پر رکھ کر اور اسے ان میں سے چھوٹے قد والے کھلاڑی کے کندھے کے برابر لا کر ان دونوں کے درمیان تقریباً ”60 سینٹی میٹر“ اونچا اچھا لے گا۔ گیند کو ہاتھ سے اچھائتے وقت ساتھ سینٹی بھی بھجائے گا۔ سینٹی بجھے سے پہلے اگر کوئی کھلاڑی حرکت کرے تو اس کے مقابل کو ”فری پاس“ دیا جائے گا۔



نظم و مخطط (Discipline):

- (i)- کھلاڑی کو ایسے اعمال اور غیر معیاری روایہ جو کھیل کے منافی ہو اور جو پا قاعدہ ضوابط کے دائرہ کار میں نہیں آتا، کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسا طرز عمل یا کھلاڑی کے غیر شایان شان روایے کا مظاہرہ خاص طور پر کھیل کے مقابل ڈورانیوں کے درمیانی وقتوں کے ڈوران ”گول“ ہونے اور ”سترن پاس“ کے کیے جانے کے درمیانی عرصہ میں یا گیند ”کورٹ“ کی حدود کو پار کر جانے اور ”تمرو ان“ کے ڈوران پیش آتے ہیں، کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کے طرز عمل کی علیحدگی یا شدت کی نوعیت کی مطابقت سے ”فری پاس“؛ ”پینٹی پاس“؛ ”پینٹی پاس یا شافت“ یا ”تمرو ان“ دی جا سکتی ہے۔
- (ii)- دیدہ دانستہ کھیل میں تاخیر یا بھٹل پیدا کرنا۔
- (iii)- ”امپار“ سے اختلاف رائے، تغیریہ یا بھکڑا کرنا۔

یہ ”امپار“ کی صواب دیدہ پر منحصر ہے کہ وہ اس حصہ میں کیا تاریخی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔

متنبہ کرنا یا معطل کرنا (Warning or Suspension)

کھلاڑی کو غیر شایان شان رو یہ کامظاہرہ کرنے پر باقاعدہ متنبہ کیا جائے۔ "امپارز" "نائم کپر" کو گھری روکنے کا اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ کھلاڑی کو اس امر سے آگاہ کرے گا کہ ایسے روپیے کا اعادہ کرنے کی صورت میں کیا تائج برآمد ہو گے اس کے علاوہ اس کے "کیپشن" کو بھی اس امر سے آگاہ کرے گا کہ اس کھلاڑی نے ایسے اسی روپیے کا دوبارہ مظاہرہ کیا تو امپارز سے عارضی طور پر (محصول وقت کے لیے) کھیل سے خارج کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگاہ "گول" ہونے تک، اگاہ وقت ہونے تک یا 5 منٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ کھیل سے معطل کیے جانے کے ذریعہ کا تین کھلاڑی کے نارو یا غیر معیاری روپیے کے عینیں یا شدت پر محصر ہے۔ اس مسئلہ میں "کیپشن" "نائم کپر" اور مذکورہ کھلاڑی کو اس امر سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کا اندر ارجح "سکور شیٹ" پر کیا جائے گا۔ عارضی طور پر کھیل سے خارج کرو کہ کھلاڑی "نائم کپر" کے نزدیک محصول جگہ پر بیٹھے گا۔ لیکن اس کا مقابل "کورٹ" میں داخل نہیں کیا جائے گا اور اس کی جگہ خالی رہے گی۔ "ستھر" کی صورت میں "کورٹ" میں حاضر کسی بھی دوسرے کھلاڑی کو اس کی جگہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جوئی معطل شدہ کھلاڑی کھیل میں واپس آئے گا وہ کھلاڑی اپنی اصلی جگہ پر چلا جائے گا اگر صورت حال بہت ہی تگیں ہو تو کھلاڑی کو مستقل طور پر کھیل بد کرو یا جاتا ہے تو کھیل کے بھی حصہ میں اس کی جگہ مقابل کھلاڑی شامل کیا نہیں جاتا اور اس کی جگہ خالی رہے گی۔ صرف "ستھر" کی صورت میں کورٹ میں موجود کوئی بھی کھلاڑی اس کی جگہ کھیل سکتا ہے۔

تاخیر سے کورٹ میں داخل ہونا (Failure to take the Court)


ہر ٹیم کے لیے یہ لازمی ہے کہ کھیل کے آغاز میں اور مختلف وقتوں کے بعد امپارز کے کہنے پر فوراً "کورٹ" میں داخل ہو جائیں، اگر کسی ٹیم کے 5 کھلاڑی "کورٹ" میں بیٹھنے کے لیے موجود ہیں تو کھیل شروع کیا جاسکتا ہے جو کھلاڑی کھیل شروع ہونے کے بعد آئیں گے انہیں دیر سے آنے والے کھلاڑی (Late Arrivals) تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ کھیل میں صرف محصول ضابطوں کے تحت تھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کھیل کے آغاز سے پہلے اگر کسی ٹیم کے پانچ سے ستم کھلاڑی ہوں تو مندرجہ ذیل طریقہ کارپاتا یا جائے گا۔

- مذکورہ ٹیم کو کم از کم 5 کھلاڑی پورے کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا لیکن اس وقت تک اگر وہ "نیم" ایسا کرنے سے قادر رہے تو دری یا "نیم" کو جوتی ہو اتصور کیا جائے گا۔

۱۱۔ کھیل کے مختلف دورانیوں کے درمیانی وقتوں کے اختام سے 30 سینڈ پہلے "امپارز" دونوں ٹیموں کو کھیل شروع کرنے کے لیے "کورٹ" میں حاضر ہونے کا اشارہ دے اکرے گا لیکن اگر کوئی "نیم" اس وقت کے بعد ہونے سے پہلے "کورٹ" میں حاضر نہ ہو سکے تو اسے ایک منٹ کا اضافی وقت دیا جائے گا لیکن اگر وہ "نیم" پھر بھی "کورٹ" میں حاضر نہ ہو پائے تو دری یا "نیم" کو "نیچ" میں جتنا ہوا تسلیم کر لیا جائے گا۔


نیٹ بال کی چیدہ چیدہ مہارتیں:

دونوں ہاتھوں سے گیند کو پکڑنا: ہاتھوں کی انگلیاں کھولیں، دونوں بازوں گیند کی طرف بڑھا کر گیند ہاتھوں میں پکڑ کر فوراً اپنا جسم اور بازو بیچھے لے جائیں۔ اس طرح گیند آسانی سے پکڑا جاتا ہے اور ہاتھوں میں اچھے نہیں پاتا۔ انگلوں کو چوت سے چھانے کے لئے ضروری ہے کہ بازو اور انگلوں میں اکڑا اور پیدا نہ کیا جائے۔



کندھوں کی سڑ سے پاس دینا

ایک ہاتھ سے گیند پکڑنا: اس مہارت میں کھلاڑی اپنا ایک بازو پھیلا کر اسی ہاتھ سے گیند پکڑتی ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے گیند زیادہ ذوری سے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔



ایک ہاتھ سے گیند پکڑنا

گندھوں کی سٹل سے پاس دینا: پاس لینے والے کھلاڑی کے قابضے، سست اور فقار کو مدد نظر رکھ کر اس کی طرف گیند پھینکنا چاہیے، گیند کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کندھے اور کہنی سے بازو سامنے کی طرف بڑھائیں اور ایک قدم لے کر دوسرا پاؤں پر وزن ڈالتے ہوئے گیند پھینک دیں۔ کھانجوں کو جھکا دینے سے گیند کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔

پہلو میں کوپٹے کی سٹل سے پاس دینا: یہ طریقہ تیز اور چھوٹے پاس کے لیے موزوں ہے۔ اس میں گیند کمر سے ذرا نیچے یا پہلو کی طرف سے اس انداز میں پھینکنا جاتا ہے، جیسے پہلو سے کوئی چیز آئی کر پھینکی جاتی ہے۔



پہلو میں کوپٹے کی سٹل سے پاس دینا

چھانس دینا:


بیٹ بال میں چھانس دینا بھی ایک فن اور کامیابی کا نامن ہوتا ہے۔ چھانس دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خلاط تاش دیا جائے، مثلاً مختلف کھلاڑی کے پیچھے اس طرح کھڑے ہونا چاہیے کہ اسے نظر نہ آئے یا پہلے ایک طرف کا چھانس دے کر یا کا یک دوسرا طرف سے نکلے اور گیند پکڑ لے، یعنی دوسری طرف ظاہر کرنے کے بعد باہمیں جانب سے نکل کر گیند کو پکڑ لے۔ چھانس دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھلاڑی پہلے سامنے کی جانب دوڑے۔ لازماً مختلف کھلاڑی بھی اسی طرف بھاگے گا۔ پھر یا کا یک مھرتی سے پیچے ہو کر مختلف کھلاڑی کے سر کے اوپر سے گیند پکڑ لے۔

حائل ہوتا:

کوئی کھلاڑی اگر مختلف کھلاڑی کو گیند حاصل کرنے سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس طرح حائل ہو جائے کہ گیند پر قابض مختلف کھلاڑی آسانی سے نہ تو شوت اور نہ پاس کر پائے، لیکن ان کے درمیان 90 سینٹی میٹر کا فاصلہ ضرور رہتا چاہیے۔

گول کرنے میں ہمارت حاصل کرنے کے لیے مددجوہ دلیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

- 1- مختلف فاصلوں سے روزانہ گول کرنے کی کم از کم سو دفعہ مشق کرنی چاہیے۔
- 2- دونوں ہاتھوں سے اور ایک ہاتھ سے علیحدہ علیحدہ گول کرنے کی کامل مشق کرنی چاہیے۔
- 3- کھڑے ہو کر اور دوڑتے ہوئے گیند رنگ میں سے گزارنے کی مشق کرنی چاہیے۔
- 4- دونوں ہاتھوں سے گیند پھینک کر رنگ میں سے گزارنے کے لیے، گھٹنے ذرا آگے کی طرف جھکائیں اور جسم کو سیدھا رکھیں اور بازوؤں کو ترچھا اور پانچھاتے ہوئے گیند کو "رنگ" کی طرف اچھال دینا چاہیے۔
- 5- گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ٹانگ سے قدم آگے کو لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے گیند کو "رنگ" میں سے گزارنا چاہیے۔



خالف کھلاڑی کے سر کے اوپر سے شوت کرنا



کرتوں کھیلوں کے ضابطے اور بیناوی مہارتوں

(Competition Rules and Basic Skills of Athletics)

شات پٹ (Shot Put):

شات پٹ کی ابتداء پتھر پھینکنے سے ہوئی ہے۔ اگر باور کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں انگریز سپاہی اپنے قارٹ وقت کے ذریعے پتھر کی بجائے توپ کے 12، 16، 24، 24 پونڈ وزنی گولے پھینکا کرتے تھے۔ 16 پونڈ (7.257 کلوگرام) کا گولہ اپنے جنم اور وزن کی مناسبت سے زیاد و پسند کیا جاتا تھا۔ اس لیے یا اگر یہ گولے کے ذریعہ تمام ممالک میں مقبول ہو گیا۔

ان دنوں اسے پھینکنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ پہلے طریقے میں بغیر کسی پابندی کے، اس لیے اس میں زیادہ بہتر کارکردگی حاصل ہوتی تھی، جبکہ دوسرا طریقہ میں اسے 2.13 میٹر مریخ رقبہ استعمال کیا جاتا تھا جسے چونے یا رسی کی مدد سے بنایا جاتا تھا۔ 1880 میں انگلستان کی اتحادیکھیلیوں کی تنظیم نے 2.13 میٹر کے دائرے میں سے شات پٹ کرنے کا ضابطہ وضع کیا تھا۔ پہلی اولپک کھیلوں میں 2 میٹر اور دوسری میں 2.13 میٹر کا مریخ استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ 1904 کی اولپک کھیلوں میں 2.13 میٹر کا دائرہ استعمال کیا گیا۔ شات پٹ کی کارکردگی میں تجھنکی تبدیلیوں کی بنا پر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مروں کا عالمی رکارڈ 23.12 میٹر امریکہ کے "ریندی بارنس" (Randy Barnes) اور خواتین کا 63.22 میٹر روس کی ناتالیا اس کا یا (Natalya Lisove Kaya) کا ہے۔

مقابلے کے ضابطے (Rules of Competition):

تحلیلیں کی باریوں کی ترتیب قرعہ اندازی سے مقرر کی جائے گی۔

- 1 جس مقابلے میں آنحضرت سے زیادہ تحلیلیں ہوں وہاں پر ہر تحلیل کو تمیں باریاں دی جائیں گی اور بہترین باضابطہ کارکردگی (Best Valid Performance) کی بنیاد پر منتخب کردہ آنحضرتی تحلیل کو مزید تمیں باریاں دی جائیں گی۔
- 2 آخری کوایقا نگہ پوزیشن پر برابری کی صورت میں فیصلہ برابری کے مطابق ہی کیا جائے گا کسی ایسے "فیلڈ ایونٹ" میں جس کا نتیجہ افتتاحی فاصلے کی بنیاد پر تعین کیا جاتا ہے برابری میں شامل تمام تحلیلیں دوسری بہترین باضابطہ کارکردگی کا موازنہ کیا جائے گا اور اگر مزید ضرورت پڑے تو تیسرا بہترین کارکردگی کا موازنہ دخیرہ لیکن جہاں انہوں نے اس سے کم تحلیلیں ہوں ان کو چھپھوپھو باریاں دی جائیں گی لیکن اگر ایک سے زیادہ تحلیل کیں کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہوں تو ایسے تمام تحلیلیں مقابلے کے انعقاد سے پورش مرتباً کردہ باریوں کی ترتیب کے مطابق ان تحلیلیں سے پہلے اپنی باریاں لیں گے جنہوں نے اپنی پہلی تمیں کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کی ہے۔

(الف) چوتھے اور پانچویں دور (Rounds) میں باریوں کی ترتیب پہلی تین کوششوں میں ہر اتحدیت کی بہترین پاشابط انفرادی کارکردگی کی اٹی نسبت سے مرتب کی جائے گی۔ آخوندی دور میں باریوں کی ترتیب پہلی پانچویں کوششوں میں ہر اتحدیت کی بہترین پاشابط انفرادی کارکردگی کی اٹی نسبت سے معین کی جائے گی۔

(ب) جب بھی باریوں کی ترتیب بدین مقصود ہو تو اس وقت اگر دو یا زیادہ اتحدیت کی کارکردگی ایک برابر ہونے کی بنا پر برابر ہو تو ایسے تمام اتحدیت کو اسی ترتیب سے باریاں دی جائیں گی جس ترتیب سے ان کی باریاں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقرر کی گئی تھیں۔

نوت:- ایسے تمام ”فیلڈ ایٹھس“ جن کی کارکردگی اپنی فاسٹے کی نسبت سے معین کی جاتی ہے۔ ”ولڑا چمیٹن شپ“

World Championship) اور ”اوپک چمپئنیز“ (Olympic Games) کے علاوہ باقی تمام میں الاقوامی مقابلوں میں مقابلہ کروانے کی قسم دار قومی یا میں الاقوامی تنظیم کی مجلس انتظامی امور کوششوں کی تعداد میں کمی کرنے کی باختیار ہے۔

3۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقابلے کے مقام پر مصنفوں کی گرفتاری میں ہر اتحدیت کو قریب اندمازی کے ذریعے مقرر کرو، و ترتیب کے مطابق مشق کے لیے باریاں دی جائیں گی۔

4۔ جب مقابلہ شروع ہو جائے تو کسی اتحدیت کو اسراہ یا شاث گرنے کے سلسلہ کی دریافتی جگہ میں شاث یا اس کے بغیر مشق کی اجازت نہیں ہوگی۔

5۔ شاث دائرے کے اندر سے پٹ کیا جائے گا۔ عمل ساکن حالت اختیار کرنے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اتحدیت دائرہ کے لوہے کے علقے اور شاپ بورڈ کے اندر وہی حصوں کو پھوٹ سکتا ہے۔

6۔ شاث ایک ہاتھ سے کندھے کے اوپر سے پٹ کیا جائے گا۔ جب اتحدیت دائرہ میں شاث پٹ کرنے کا ابتدائی انداز اپنالیتا ہے تو اس لمحے سے شاث اس کی طور پر اگردن سے لگا ہو رہتا چاہیے یا ان کے بالکل نزدیک ہی رہے۔ شاث پٹ کرنے کے عمل کے دوران اتحدیت کا ہاتھ اس پوزیشن سے نہ تو چیخ لایا جائے اور نہ ہی ”شاث“ کو کندھے کی سیدھے سے چیخ لے جایا جائے۔

نوت:- ”کارت ویلینگ تکنیکس“ (Cart wheeling techniques) کی اجازت نہیں۔

7۔ (الف)۔ اتحدیت دوران مقابلہ اسی کسی بھی چیز کے استعمال کا مجاز نہیں جس سے وہ دو حاصل کر سکے، خلا دیا اس سے زیادہ انگلوں کو ”ٹیپ“ کے ذریعے اکٹھے باندھ لیتا یا جسم کے ساتھ وزن باندھ لیتا جو ”شاث پٹ“ کرنے میں مدد گار ثابت ہو سکے۔ البتہ اس ہاتھ پر کھلا رکھنے ہونے کی صورت میں اسے پٹ سے ڈھانپا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھلا رکھنے کو دوران میں کسی قسم کا چمڑا کا د کرنے اور جوتی کے تکوے پر کوئی چیز ملنے یا دائرة کے فرش پر کھر دیا ہنے کی اجازت نہیں۔ (ب)۔ دستانے پکن کر ”شاث پٹ“ کرنے کی اجازت نہیں۔ (ج)۔ اتحدیت بہتر گرفت کے لیے اپنے ہاتھوں اور گردن پر کوئی موزوں چیزوں جیز مل سکتے ہیں۔ (د)۔ رینہ کی ہڈی کو چوتھ سے چھانے کے لیے اتحدیت چڑے یا کسی بھی موزوں چیز کی حفاظتی پیشی استعمال کر سکتے ہیں۔ (ہ)۔ کلائی کو چوتھ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر پیٹی باندھ سکتے ہیں۔

8۔ نامیکارے جانے والوں نصف کے اس اشارے کے بعد کوشش شروع کی جائے۔ اتحدیت کو ایک منٹ کے اندر ہی اپنی کوشش کی تحریکات کرنی ہوگی ورنہ اس کا ہی تصور کیا جائے گا: تاہم اگر اتحدیت چاہے تو اس منٹ کے دوران میں اپنی شروع کردہ کوشش روک کر دائرہ سے باہر آ سکتا ہے اور پھر واپس اندر جا کر ساکن حالت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے اگر پہلی کوشش کے دوران اتحدیت سے کوئی شابطہ ٹھنپی سرزد ہوئی ہو۔ جس میں دائرہ میں سے باہر نکلنے کے متابلوں کی پاسداری بھی شامل ہے، (کوشش شروع

کرنے کے اس دورانیے کا آغاز اس لمحے سے ہو جاتا ہے جب تمام تیاری مکمل ہو جانے کے بعد مختلف آفیشل اتحادیت کو کوشش شروع کرنے کا اشارہ کر دے۔ اگر اتحادیت اپنی کوشش مقررہ دورانیے کے اندر اندر شروع کرنے سے قادر ہے یا اپنی باری نہ لینا چاہے تو اسے ناکام کوشش قرار دیا جائے گا لیکن اگر کوشش شروع ہونے کے ساتھ مقررہ وقت کی معیار ختم ہو جاتی ہے تو اسی کوشش صحیح تسلیم کی جائے گی۔

نوٹ: ایک اٹھی گفتگی اور ہندسوں میں وقت ظاہر کرنے والی گھری جو اتحادیت کو اس کے مختص شدہ دورانیے کے بھایا وقت سے آگاہ کرتی رہے گی۔ نمایاں نظر آئی چاہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اہل کار اتحادیت کو مقررہ وقت ختم ہونے سے 15 سینڈ پبلے ایک پیلا چمنڈ ایجاد کر کے یا اور کسی ذریعے سے انتہائی اشارہ کرے گا۔

9. "شاث کرتے وقت اگر اتحادیت کے جسم کا کوئی حصہ دائرے کے باہر زمین پار کا وہی بورڈ کی اوپر والی سطح کو تپھو جائے یا غلط طریقے سے "پٹ" کیا جائے تو اسے فاؤن گردانا جائے گا۔

10. "شاث پٹ" گرنے کے لیے 34.92 درجے زاویہ کا سینٹر لگایا جاتا ہے جس کی لیکر اس رکاوٹی بورڈ کو پہنچوئی ہوئی دائرے کے مرکزی نقطہ تک پہنچتی ہے۔ "شاث" اس سینٹر کی لیکروں کے اندر گرنا چاہیے ورنہ فاؤن گردانے کا درجہ قرار دے دیا جائے گا۔

11. اتحادیت کی ہر صحیح کوشش کی پیاس شاث گرنے سے پیدا شدہ پبلے نشان کے قریب ترین کنارے سے لے کر دائیے کے محیط کے اندر وہی کنارے تک کی جائے گی۔ فیتو کی سیدھہ قائم رکھنے کے لیے اسے دائیے کے مرکز میں رکھا جائے گا، اگر فاصلہ پورے سینٹی میٹر میں نہ ہو تو اسے قریب ترین پچھے سینٹی میٹر میں لکھا جائے گا۔

12. اتحادیت اس وقت تک دائرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ جب تک شاث زمین پر نہ گر جائے، بعد ازاں اتحادیت دائرے کے پچھلے نصف حصے سے باہر نکلے گا۔ ایک فرضی یا انظراً نے والی لیکر جو دائیے کے مرکز سے گزر کر اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہو۔ اس کے "رم" یا "کڑے" سے باہر دونوں اطراف کم از کم 7 سینٹی میٹر بڑھائی جاتی ہے۔ یہ لیکر 5 سینٹی میٹر پھر ہوئی ہوئی ہے اور دائیے کے الگ نصف کا حصہ ہے۔

13. ہر کوشش کے بعد ہمیشہ شاث والپس آنکھا کر لایا جائے۔ اسے کسی صورت میں دائیے کی جانب واپس نہ پھینکا یا لڑکا لایا جائے۔

14. ہر اتحادیت کی بہترین باضابطہ کارکردگی "پوزیشن" کے لیے شمار کی جائے گی۔ خواہ یہ کارکردگی کی پوزیشن کی برابری کے تنازع حصول کے لیے ہی ہو۔

15. صرف منتظمین کے مہیا کردہ شاث استعمال کیے جائیں گے اور مقابلے کے ذور ان ان میں کسی قسم کی تہذیب یا بدھا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

نوٹ: (i) تمام "فیلڈ اپٹس" میں اگر کسی وجہ سے اتحادیت کی کوشش کے ذور ان میں کچھ ایسے نامناسب حالات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے اس کی کارکردگی ممتاز ہو جائے تو ریفری اسے تباہ کوشش دینے کا با اختیار ہے۔

(ii) ایسے تمام "فیلڈ اپٹس" میں جن کی کارکردگی کا تعین اتفاق نا ممکن ہے کی بیان دیا جاتا ہے۔ کسی اتحادیت کی ایسی کوشش ہے جسے بے ضابط تسلیم کیا جائے تو اسے ذرست تصور کرتا ہو تو وہ "ایونٹ" کے مختلف ریفری سے فوری طور پر زبانی احتیاج کر سکتا ہے اور اگر


منظری مناسب تجھے تو اپنا سواہ بیدی حق استعمال رہتے ہوئے اس بوشش کی کارکروں کی پیمائش کرنے اور اسے درج کرنے کا ختم دے سکتا ہے تاکہ بعد میں تمام مختلف فریقین کے حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔

16۔ مارکر یا نشانی (Marker):

اسی قھروز جو دارہ میں سے کی جاتی ہے۔ ان کے لیے بھی تحلیل انتظامیہ کا مبیا کردہ ایک عدد مارکر (Marker) یا نشانی استعمال کرنے کی اجازت ہے جسے وہ واقعی طور پر دارہ سے باہر لیکن بالکل اس کے ساتھ زمین پر لگا سکتا ہے۔ مذکورہ "تحلیل" اسے صرف اپنی باری کے دوران لگانے کا مجاز ہے لیکن یہ "مارکر" مخصوصیں کی حد نگاہ میں رکاوٹ کا باعث بنا نہیں چاہیے۔ "تحلیل" کو شاث گرنے کی وجہ "لینڈنگ ایریا" میں یا اس سے باہر اپنے ذاتی "مارکر" لگانے کی اجازت نہیں۔

17۔ کوشش "ترک" کی تجھیک کا اختتام پڑے یا عمل ہوں (Completion of trials):
باضابطہ کوشش کو نیمیاں اوضاع کرنے کے لیے جو کو سفید جھنڈا اس وقت تک بلند نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ "تحلیل" کی کوشش اختتام پذیر ہوئی جاتی۔ "شاث پٹ" میں باضابطہ کوشش (Trial) اس صورت اختتام پذیر ہوتی ہے جب "تحلیل" اپنی کوشش عمل کرنے کے بعد مندرجہ بالا ضوابط 5، 6، 8، 9 اور 12 کی خلاف ورزی کیے بغیر ایک دفعہ دارہ (Circle) میں سے باہر نکل آئے۔

18۔ پیچنے کا دارہ (The Throwing Circle):




شاث پٹ کا دارہ

دارے کا حلقوں ہے یا فولاد کی پتی یا کسی مناسب ماتے سے بنایا جائے جسے دارے کے باہر کی جانب زمین کی سطح کے ہموار گازرا جائے۔ دارے کا اندروں حصہ کنکریٹ، اسفلات یا ایسے ہی پختہ مواد سے بنایا جائے جو پھٹنے والا نہ ہو۔ دارے کے اونگروں کی سطح لکڑی "سلیمیک" یا ایسے ہی کسی ماتے کی بنی ہو گی اور اس کے اندروں فرش کی سطح ہموار اور بیرونی دھانی حلقوں کے اوپر والے کنارے سے 2 سینٹی میٹر \pm 6 میٹر طی رہنے چاہیے۔ دارے کا اندروں قطر 2.135 ± 5 میٹر ہوتا ہے۔ اس کا رام 6 میٹر مونا ہوتا ہے۔ دارے کے نصف حصہ کو ظاہر کرنے کے لیے 5 سینٹی میٹر چوڑی اور کم 75 سینٹی میٹر لمبی ایک سفید لکڑی دارے کے دونوں جانب

بہر اس طرح سے لگائی جائے گی کہ پہ دائرے کے اگلے نصف میں ہو۔ ان باہر والی لکیروں کو سفید روغن کیا جا سکتا ہے، لکڑی یا کسی مناسب چیز کی ہنائی جا سکتی ہے۔ جب دائرے کے مرکز میں اس فرضی لکیر کے پچھلے کنارے پر عمود گرا یا جائے تو اس خط کا لکھر کے درمیانی نقطہ پر سے گزرا لازمی ہوتا ہے۔

اس کا ریگ سفید ہو گا۔ یہ لکڑی یا کسی اور مواد میں مادے کا بنا ہو گا



19- "ٹھاپ بورڈ" (The Stop Board)

جس کی مثال بہت قوس ہجتی ہو گی۔ یہ بورڈ میں پر اس طرح نصب کیا جائے گا کہ بورڈ کا اندر وہی کناروں کے سین اور پر اسے دائرے کے اندر وہی کنارے کے سین اور پر آجائے۔

ٹھاپ بورڈ کی پیمائش: ہندوی قوس کے وتر (Chord) کی لمبائی 1.21 میٹر ± 1 سینٹی میٹر چوڑائی 11.2 سینٹی میٹر ± 0.30 سینٹی میٹر اور اونچائی 10 سینٹی میٹر ± 2 میٹر ہوتی ہے اور اسے دائرے کے اندر وہی کنارے کے بالکل ساتھ اور سیکھر کی ونوں لکیروں کے درمیان میں ہر ایک بار کھل کر استواری مضبوطی سے زمین پر لگایا جائے گا۔

20- "ٹھاث" (The Shot)

یہ گول شکل کا ہو گا۔ یہ ٹھوس اور ہے، بیتل یا لگی کسی دوسرے دھات کا جو جھٹل سے زمnd ہو، بنایا جائے گا ایسی یہ کسی دھات کے خول میں سیسے یا کوئی اور مادہ بھرا ہوا ہو۔ اس کی چیزوں سے سطح ہمارا ہونی چاہیے۔

نوجوان لڑکیاں اور خواتین

نومر لڑکے

نوجوان مرد

مرد

Girls/Women

Men

Men

Men

(Youth/Junior/Senior)

(Boys/Youth)

(Junior)

(Senior)

وزن

7 کلوگرام

4.000

6 کلوگرام

4 کلوگرام

قطر

130+110 میٹر

125+105 میٹر

100+120 میٹر

95 میٹر

اس کے وزن اور قطر کے علاوہ باقی تمام خالی بیٹھ مردوں اور خواتین پر یکساں عائد ہوتے ہیں۔

21- گرنے کا سیکھر (The Landing Sector):

ٹھاث گرنے کی جگہ کی سطح "سنڈر" (Cinder) گھاس یا کسی اور مواد کی مواد کی ہو سکتی ہے جس پر ٹھاث گرنے کا واضح نشان بن سکے۔ اس سیکھر کا زاویہ دائرہ کے مرکز سے 34.92 درجے کا ہو گا جسے دائرہ کے باہر 5 سینٹی میٹر جو زمین سفید لکیروں سے واضح کیا جائے گا۔

اچھیلیکس کی مہارت سیکھنا و سیکھنا:

اچھیلیکس ایک مختلف النوع محیل ہے۔ اس کی اسی خوبی کی بنا پر بچے اس میں حصہ لئا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جسمانی تعلیم کے استاد اور ”کوچ“ بچوں کو وہی چیزیں سیکھاتے ہیں جو وہ مجھے ہوئے کھلاڑیوں کو سیکھاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ”اچھیلیکس“ ”تکنیک (Technique) پر فوجیں بلکہ مقابله پر منی (محیل) ہے۔ اسکے متأخر میں اچھیلیکس مہارت اور خوب صورت حرکات کی کوئی اہمیت نہیں۔ صرف وہی کھلاڑی فتح تصور ہوتا ہے جو سب سے تیز دوڑتا ہے یا پھٹکنے والے آئے کو سب سے ڈور پھٹکتا ہے یا سب سے لمبی یا اوپری چھلانگ لگاتا ہے نہ کہ یہ اعمال کرتے وقت وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ مہارت سیکھاتے اور تربیت دیتے وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ ”ایونٹ“ کے بنیادی تکنیکی پہلو میکاناتی اصولوں کے مناسنی نہ ہوں۔ کیونکہ صرف طاقت کی بنیاد پر بہتر کار کر دگی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس کے ہر نئے تکنیکی پہلو کو سیکھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اور ایک وقت پر ایک اسی چیز سیکھائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔

شات پٹ کرنے کے رانجح الوقت و طریقے ہیں:

(i)- شات سیدھی لکھر میں پٹ کرنا (Linear):

جس کا موجودہ مرکمکا ”پیری او برائن“ (Parry O'Brien) تھا۔

(ii)- شات محوری گروش سے پٹ کرنا (Rotational):

اس کا موجودہ وس کا ”الیکساندر باریشکوف“ (Aleksandr Baryshinkov) تھا۔


نوٹ: یہاں صرف سیدھی لکھر میں ”شات پٹ“ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ تکنیک اعتبار سے درسے کی نسبت سیکھنا اور سیکھانا زیادہ آسان ہے۔ ”شات پٹ“ کرنے کا عمل اور تمام تفصیلات و ایسیں ہاتھ سے ”شات پٹ“ کرنے والے کھلاڑی کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔

شات پٹ کرنے کی مہارتیں:

گرفت (Hold): شات کو انگلیوں اور ہتھیلی کے جزوں پر اس طرح رکھیں کہ اس کے گرد لیٹی ہوئی ہوں یعنی یہ ہتھیلی سے لگنے نہ پائے تاکہ اسے چھوڑتے وقت کافی کا موڑ جھکا دیا جاسکے۔ ورمیانی تین انگلیاں یچھے کی جانب ہوں جب کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو دوسرا انگلیوں کی نسبت زیادہ کھلے ہوئے ہوں گے اسے سامنے سے سہارا دیئے ہوئے ہوں گے۔




شات کو بہت زیادہ مشبوطی سے نہ پکڑا جائے بلکہ اسے انگلیوں کے پیندے پر اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کا وزن پورے ہاتھ پر بر لبر بر ابر ہو۔ اچھی گرفت اسے سمجھا جاتا ہے جس میں اچھیلیکس کی ہتھیلی بالکل صاف ہوتی ہے۔



شات کو گردن کے ساتھ رکھنا:

اسے ٹھوڑی اور گردن کے درمیان اس طرح دبا کر رکھا جانا چاہیے کہ یہ نہ تو کان کی سیدھے سے پہنچے اور نہ ہی یہاں سے یہنچے لایا جائے۔ شات کو گردن کے ساتھ رکھنے کے انداز کے چنانہ کا انحصار احتلیف کی اپنی پسند پر محضر ہے۔ کہنی اوسنچے انداز میں رکھنے سے شات کو گردن کے ساتھ رکھنا زیادہ آرام دہ نہیں ہوتا لیکن یہ طریقہ اسے گردن کے ساتھ دبائے رکھنے میں زیادہ موثر ہے۔ کہنی کو یہنچے رکھنا زیادہ آسان اور آرام دہ ہے لیکن شات کو چھوڑنے کے عمل کے دوران میں غلطی کا اندریشہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر درمیانہ انداز




زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں آرام کے علاوہ غلطی کا اندریشہ بجا کم ہوتا ہے۔

”شارنگ پوزیشن“ (Starting Position) ”گلائیڈ تکنیک“ (Glide Technique)

احتلیف پہنچنے کی سمت کے مقابل رش درمیانی فرضی لیکر پر اس طرح کھڑا ہو گا کہ اس کے دامنے پاؤں کا پیچہ دارے کے ”دم“ کے ساتھ لگا ہوا اور بائیں پاؤں کا پیچہ اس پاؤں کی ایڑی سے 20 سے 30 سینٹی میٹر پہنچے لیکن اس کی ایڑی سے 10 سینٹی میٹر باقی جاپ رکھا جائے۔ اس وقت احتلیف کی نظر 2 سے 3 میٹر آگے زمین پر ہوتی ہے۔ اپنے ہائی میں پاؤں کو کبھی بھی دائیں پاؤں کے بالکل پہنچنے رکھیں۔ کیونکہ اس سے توازن گز نے کا اندریشہ ہو سکتا ہے۔ شروع کرنے کی پوزیشن میں دایاں کندھا، بائیں کی نسبت جیسے بیٹھنے ہائے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے جسم میں بے جا عضلاتی تناول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت احتلیف کی تمام توجہ شروع کرنے کی (شارنگ پوزیشن) پر مذکور ہوتی ہے۔

"گلائیڈ شروع کرنا" (Starting the Glide)



جیری اور ان کا انداز

گلائیڈ شروع کرنے کا
انداز


گلائیڈ شروع کرنے کے لیے احتیاط کچھ مخصوص حرکات کرتا ہے۔ اس کو شروع کرنے کے وظریفے ہیں۔

پہلا طریقہ ہے "T" کہتے ہیں۔ اس طریقہ کا رکا موجہ "جیری اور ان" (Parry O' Brian) تھا۔ احتیاط پچھے ہائیں ناگہ پھیلا کر انگریزی کے حرف "T" کی شکل بن کر اور اس میں خم ڈالتے ہوئے اس کو دائیں ناگہ تک لا کر گلائیڈ شروع کرتا ہے لیکن آج کل امریکہ کے "آل فیوربریک" (Al Feuerbach) کا ایجاد کردہ انداز زیادہ مقبول ہے۔ جس میں احتیاط دونوں پاؤں پر رہتے ہوئے اور کوئی پچھے لاتے ہوئے ساتھی اپنا بیالاں پاؤں پیچھے کی جانب پھساد دیتا ہے یا اس سے مشابہ جرمن احتیاط کا انداز جس میں دونوں پاؤں پر کھڑے ہوئے بغیر کسی ابتدائی حرکت کے، یک لخت دائیں پاؤں کو پیچھے لے جاتے ہوئے گلائیڈ شروع کی جاتی ہے اس انداز میں "شات" دوسرے کے مقابلہ میں نبہائز زیادہ پیچے ہوتا ہے۔

ابتدائی حرکات کا مقدمہ:


- (i)- احتیاط اور "شات" کی ساکن حالت میں حرکت پیدا کرنا۔
- (ii)- ایک مخصوص ہال سے حرکت شروع کرنے کے لیے طریقہ کاروائی کرنا۔
- (iii)- شات کو پیچے رکھتے ہوئے دائرے میں اس کا ایک مخصوص راستے کا تینیں کرنا (جو مرحلہواری نیچے سے اوپر کی جانب چاتا ہے)۔ طریقہ "T" میں شات پہلے اوپر سے نیچے آتا ہے اور پھر نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے۔ "گلائیڈ" شروع کرتے وقت ابتدائی توازن کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے تاکہ احتیاط تسلیم اور تال کے ساتھ "گلائیڈ" کا عمل شروع کر سکے۔

پیچھے کی جانب تھولنا اور دائیں ناگہ پیچھے لے جانا (The Rockback & Right-leg Dirve)



گلائیڈ کو شروع کرنے کی سب سے پہلی حرکت کو ہوں کو پیچھے کی جانب لے جاتے ہوئے اور پھر دائیں ناگہ کو پھیلاتے ہوئے

ٹاپ بورڈ کی جانب لے جاتا ہے۔ ”گلائیڈ“ کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب اتحلیف کی صرف دائیں ایڑی میں زمین سے الگ ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت دونوں ٹانگیں بہت زیادہ گھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ دائیں ٹانگ اور دھڑکا آپس کا باہمی پچھلا ڈلتھر یا 90 درجے زاویہ کے قریب ہن جاتا ہے۔ اس وقت دھڑکا اوپر اٹھانے سے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب دائیں ٹانگ سیدھی ہو کر پیچھے کی جانب پھسلنا شروع کر دیتی ہے تو اس وقت دائیں ٹانگ اور دھڑکے باہمی فرق کا ازدواج یہ مزید بڑا ہو جاتا ہے۔ دھڑکا اوپر کی جانب اٹھنے سے روکنے کے لیے بازوں کو پیچھے اور پیچھے کی جانب پھیلائے رکھنا ضروری ہے۔ دونوں ٹانگوں کے کھل جانے سے جسم کا مرکز کل دائرے کے مرکز کی جانب چلا جاتا ہے۔ عمدہ اور ہموار ”گلائیڈ“ کا انحصار اچھے تو ازان اور اسے صحیح موقع پر شروع کرنے سے وابستہ ہے۔ مطلوب افقی قوت حرکت سے حصول کے لیے صحیح تال میل تباہیت ضروری ہے۔ تیاری اور ابتدائی حرکات میں نظر ایک ہی جگہ پر لگی ڈھنی چاہیے۔ عمومی گلائیڈ دائرے کے مسطبک کی جاتی ہے، لیکن آجکل چھوٹے فاسٹے کی گلائیڈ کرنے کا روانج ہے تاکہ اتحلیف کو شاث چھوڑنے کے وقت مخصوص انداز (Delivery Stance) اپنانے کے لیے بڑا علاقہ میر ہو۔ لبی گلائیڈ کرنے سے ”ڈیوری شانس“ کے لیے تحدیزی جگہ رہ جاتی ہے۔ اتحلیف دونوں ٹانگوں کے باہمی میل سے دائرے میں فاصلہ طے کرتا ہے۔ اسکے



دائیں پاؤں کی ایڑی سب سے آخر میں زمین سے اٹھتی ہے۔ اس لمحے بھرتی سے دائیں ٹانگ میں قم ڈالنے ہوئے اور اس پاؤں کے پیچے کو اندر کی جانب گھماتے ہوئے اسے دائیرے کے مرکز کے نزدیک اس طرح سے رکھ دیا جاتا ہے کہ دائیں ٹانگ میں نمایاں قم رہے۔ یہ پاؤں مرکز کے نزدیک رکھنے سے پوشرہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے زمین سے اٹھ جاتا ہے اور اس لمحے پیچھے پھیلائی ہوئی دائیں ٹانگ ”ٹاپ بورڈ“ کے ہائی حصے کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے۔ اس وقت پیچھے کی جانب بھکر ہوئے کندھے، بازو اور نظر کا محور اور کلوہوں کی پوزیشنوں میں کسی حرکتی تبدیلی نہیں کی جاتی چاہیے۔ ”گلائیڈ“ سپاٹ اور تیزی سے کی جاتی چاہیے۔ بایاں بازو اور کندھا کمر کو جھکائے رکھنے میں اور جسم میں مناسب گھما دیپیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دائیں ٹانگ ٹاپ بورڈ کے ساتھ رکھنے تھاث کو چھوڑنے کے عمل کا آغاز ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے۔

ڈیلیوری شٹس (Delivery Stance)

جونہی دایاں پاؤں دائرہ کے مرکز کے نزدیک رکھ دیا جاتا ہے تو "گائینڈ" کا مرحلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ دائیں اور بائیں پاؤں کے زمین پر لگنے کے وزان پچھا سا اسی وقته ہوتا ہے جو گائینڈ سے حاصل کردہ قوتی حرکت کو "ڈیلیوری" کے دوران شٹ میں منتقل کرنے کا موجب ہے جاتا ہے۔




ڈیلیوری شٹس میں مندرجہ ذیل بہت اہمیت کے حال ہیں:

- (i) - بائیں پاؤں کا دائیں کے مرکز میں درمیانی لکیر کے بالکل متوازنی ہونا اور جسم کے زیادہ تر وزن کا بھی اسی پاؤں پر ہونا اس کے بعد جسم میں مطلوبہ چھاؤ والی پوزیشن ہنانے میں مدد ملے سکے اور شٹ کو چھوڑنے کے عمل یعنی "ڈیلیوری" میں ثابت کردار ادا کر سکے۔
- (ii) - "پاور پوزیشن" (Power Position) میں بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتحلیت اپنی بائیں ٹانگ "ٹاپ بورڈ" کے ساتھ مضبوطی سے رکھ دے جائے کہ یہ جسم کو آگے جانے سے روک سکے۔ پیچھے کی جانب گھونسے اور رکھے جوئے جسم کی پوزیشن ایسی ہوئی چاہیے کہ "شٹ" بائیں پاؤں کے عواداہر کی جانب ہو اور اس لمحے پر جسم کا وزن زیادہ تر دائیں ٹانگ پر ہو۔ اتحلیت کا بایاں بازو پیچھے اور یتھر رہے۔ اتحلیت کو اس وقت تک پیچھے کی جانب دیکھتے رہنا چاہیے جب تک کہ داشتی ٹانگ اور بائیں بازو کے باہمی چھیلنے اور گھونسنے سے "ڈیلیوری" کا عمل شروع نہ ہو جائے۔ اتحلیت کو دانتہ کرنا اور کندھوں کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ عمل صرف "ڈیلیوری ایکشن" کا حصہ ہونا چاہیے۔

شٹ چھوڑنے کا عمل (Delivery Action & Release):

اس عمل کی ابتداء بائیں گھنٹے اور ٹانگ کی اندر کی جانب گھونسے اور بائیں ٹانگ سے جسم کو آگے جانے سے روکنے (Braces) اور جسم کو اوپر کی جانب اٹھادنے سے ہوتی ہے۔ کردار کندھوں کو اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے مزید تاثیر کی جائے۔ اس وقت بائیں بازو کو چھاتی سے ڈور رکھتے ہوئے اوپر اٹھائیں۔ جس پر چھاتی کے گرد عضلات میں خصوصی تاڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ شٹ کو چھوڑنے کی موثر پوزیشن اسی وقت ممکن ہے جب بایاں بازو دراست سے بہت جائے اور دائیں ٹانگ اندر کی طرف گھوم جائے تو چھاتی اور دائیں بازو کو اس پوزیشن میں لا یا جائے جہاں سا سے آخری دھکا دیا جاسکے۔ جب کر گھوم کر شٹ چھوڑنے کی سمت میں آجائے تو شٹ اور



ہازو کوندھ سے پرے دھکیلا جاتا ہے۔ اس لئے ہاتھ کی کالائی کہنی سے اوپری اور واقعی طرف کا تمام جسم یا تو کوہیوں کے برابر یا پھر اس سے تھوڑا آگے ہوتا چاہیے۔ جس وقت شاث کو ہاتھ سے چھوڑا جائے، اتحلیٹ کا جسم پوری طرح سے اوپر کی جانب پھیلا ہوا ہو اور جب یہ "شاپ بورڈ" کے میں اور عودا ہو گا تو یہ اتحلیٹ کے ہاتھ سے کل جائے گا۔ شاث چھوڑنے کے بعد فاؤل سے نیچے کے لیے ضروری ہے کہ اتحلیٹ "ریورس" (Reverse) (دونوں ٹانگوں کی جگہ تبدیل کر لی جائے) کر لیا جائے۔ یہ ہن لشین کر لینا چاہیے کہ "ریورس" "پنگ ایکشن" (Putting Action) کا حصہ ہے بلکہ شاث کے ہاتھ سے کل جانے کے بعد اسے کیا جاتا ہے۔

"ریکوری" (Recovery)

مندرجہ بالا حرکات تیزی اور جسم کی پوری قوت صرف ہونے کا نتیجہ ہیں اور میں ممکن ہے "شاث" چھوڑتے وقت جسم کا توازن برقرار رہے اور فاؤل ہو جائے۔ حفظی ما تقدم کے طور پر "شاث" ہاتھ سے کل جانے کے فوراً ہی میں ٹانگ کو شاپ بورڈ کے قریب رکھ کر اس میں خم پیدا کیا جائے اور ساتھ ہی باسیں ٹانگ کو دائرے کی پھیلی جانب جلا دیا جائے لیکن جسم آگے کی طرف مائل رہے۔

ٹرپل جپ (Triple Jump)

"ٹرپل ایڈن فیلڈ اچلیکس" میں اسے "ہاپ سٹیپ ایڈن جپ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک افتی چھلانگ ہے جس میں اتحلیٹ تین لگاتار خصوصی حرکت کو استعمال کرتے ہوئے فاصلہ ملے کرتا ہے۔ اس کے مأخذ (Origin) کا کوئی واضح ثبوت نہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ "ہاپ سکاچ" (Hop Scotch) (مقامی زبان میں اسے "شاہ خلاپ" کہا جاتا ہے) کی تبدیل شدہ کل ہے۔ یہ "ایڈن" آر لینڈ اور سکات لینڈ کی مقامی یا ویسی کھیلوں کے مقابلوں کا ہم حصہ تھا۔ اسی لیے اس کو "آرٹس ہاپ" بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن اس کے کوئی مخصوص ضابطے نہ تھے یہ اتحلیٹ کی صواب دید پر نصر تھا کہ وہ تینوں ہی "ہاپس" (Hops) لے لے یا وہ دو "ہاپس" لینے کے بعد ایک "سٹیپ" لے کر چھلانگ مکمل کر لے۔ 1896ء میں اس "ایڈن" کو باقاعدہ بنادیا گیا۔ اب اس چھلانگ کو


"ہاپ۔ سٹپ۔ جپ" کے تسلیل میں لگایا جاتا ہے۔ یعنی "ہاپ" میں اتحلیت جس پاؤں پر سے کوہتا ہے اسی پاؤں پر زمین پر گرتا ہے۔ "سٹپ (Step)" میں وہ اسی پاؤں سے کوہ کر خالف پاؤں پر گرتا ہے اور "جپ" (Jump) میں وہ اسی پاؤں سے کوہ کر اکھڑے میں کسی بھی طریقے سے گر سکتا ہے (عموماً اپنے دلوں پاؤں اکھڑے رکھتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے)۔ اس "اینٹ" کا موجودہ عالمی ریکارڈ 18.29 میٹر جو انگلینڈ کے "جا تھن انڈروز" (Jonathan Edwards) کا ہے۔ جس نے ورنلا تھلیکس چمپیون شپ میں یوریکارڈ 17 اگست 1995 گوتے بورگ (Goteborg) سویڈن میں قائم کیا تھا اور اسی چمپیون شپ میں یورکرائن کی ایجاد کرویت (Inessa Karvet) نے خواتین کا موجودہ عالمی ریکارڈ 15.50 میٹر 10 اگست کو قائم کیا۔

مقابلے کے ضابطے:

- 1 اتحلیش کی باریوں کی ترتیب قرائماڑی سے مقرر کی جائے گی۔
- 2 جس مقابلے میں آٹھ سے زیادہ اتحلیش کوئین تین باریوں دی جائیں گی اور بہترین باضابطہ کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کردہ آٹھ اتحلیش کو حریدتیں تین باریاں دی جائیں گی۔ آخری "کوالیفیکنگ پوزیشن" پر برابری کی صورت میں فیصلہ برابری کے حل کے مروجہ ضابطوں کے مطابق ہی کیا جائے گا (یعنی دوسرا بہترین کارکردگی کا موزانہ و قیود غیرہ)، لیکن جہاں آٹھ یا اس سے کم اتحلیت ہوں وہاں پر ہر اتحلیت کو چھ باریاں دی جائیں گی، لیکن اگر ایک سے زیادہ اتحلیش اپنی پہلی تین کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہوں تو ایسے تمام اتحلیش مقابلے کے انعقاد سے پیشتر مرتب کردہ باریوں کی ترتیب کے مطابق ان اتحلیش سے پہلے اپنی باریاں لیں گے جنہوں نے اپنی پہلی تین کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کی ہے۔ دلوں ہی صورت میں:
 - (الف) چوتھے اور پانچیں دور (Rounds) میں باریوں کی ترتیب پہلی تین کوششوں میں ہر اتحلیت کی بہترین باضابطہ انفرادی کا کارکردگی کی الٹی نسبت سے مرتب کی جائے گی۔ آخری دور میں باریوں کی ترتیب پہلی پانچ کوششوں میں ہر اتحلیت کی بہترین باضابطہ انفرادی کا کارکردگی کی الٹی نسبت سے معین کی جائے گی۔
 - (ب) جب بھی باریوں کی ترتیب بدلتی مقصود ہو تو اس وقت اگر دو یا زیادہ اتحلیش کی کارکردگی ایک برابر ہونے کی بنا پر برابری ہو تو ایسے تمام اتحلیش کو اسی ترتیب سے باریاں دی جائیں گی جس ترتیب سے ان کی باریاں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقرر کی گئی تھیں۔
- 3 جب مقابلہ شروع ہو جائے تو اتحلیت کوہوئے کے راستے کوشش کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
- 4 مقابلہ شروع ہونے سے پیشتر مقام مقابلہ پر منصوبیں کی نگرانی میں ہر اتحلیت کو مقرر کردہ ترتیب کے مطابق کوشش کے لیے باریاں دی جائیں گی۔
- 5 تم پکارے جانے اور منصف کے اشارے کے بعد کوشش شروع کی جائے اتحلیت کو ایک منٹ کے اندر ہی اپنی کوشش کی شروعات کرنی ہوگی ورنہ سے ناکام تصور کیا جائے گا، تاہم اگر اتحلیت چاہے تو اس منصف کردہ دورانی میں اپنی شروع کردہ کوشش روک کر دوڑنے کی راہداری سے باہر آ سکتا ہے اور پھر واپس اندر جا کر نئی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے اگر پہلی کوشش کے دوران اتحلیت سے کوئی ضابطہ لٹکنی سرزد ہوئی ہو۔ (کوشش شروع کرنے کے اس دورانی کی ابتداء لمحے سے ہو جاتی ہے جب تمام تیاری مکمل ہو جانے کے بعد متعلقہ آفیشل اتحلیت کو کوشش شروع کرنے کا اشارہ کر دے)، اگر اتحلیت اپنی کوشش مقرر کردہ دورانی کے اندر اندر شروع کرنے سے قادر ہے یا اپنی باری نہ لینا چاہئے تو اسے ناکام کوشش قرار دیا جائے گا لیکن اگر کوشش شروع ہونے کے ساتھ مقرر و وقت کی معیاد نہ تھم ہو جاتی ہے تو اسی کوشش سمجھ تسلیم کی جائے گی۔

نوت: ایک اٹی گتھی اور ہندسوں میں وقت ظاہر کرنے والی گزی جو اتحلیف کو اس کے مختص شدہ دوڑا ہے کے بقايا وقت سے آگاہ کرتی رہے گی۔ نمایاں نظر آئی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہل کار اتحلیف کو مقررہ وقت ختم ہونے سے 15 سینڈ پلے ایک پیلا جھنڈا پہنچ کر کے یا کسی اور زریعے سے انتہائی اشارہ کرے گا۔

6- "ٹرپل ہجپ" با ترتیب "ہاپ، شیپ اور ہجپ" پر مشتمل ہوگا۔



اکھاڑے میں گرنا ضروری ہے
جس پاؤں سے گودا جاتا ہے
اسکے مقابل پاؤں پر
اترنا ضروری ہوتا ہے
اسی پر اترنا ضروری ہوتا ہے

7- "ہاپ" (Hop) کرتے ہوئے اتحلیف جس پاؤں سے گودے گا اس ہی پاؤں پر زمین پر آئے گا۔ شیپ (Step) میں وہ اسی پاؤں پر سے کوکرخالف پاؤں پر اترے گا۔ جہاں سے کوکر "ہجپ" (Jump) لگائے گا۔ "ٹرپل ہجپ" کرتے ہوئے اگر اتحلیف کی سلیپینگ لیگ (Sleeping Leg) زمین سے چھو جائے تو اسے ناکامی تصور نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ یہ چھلانگ ایک اتحلیف کی تین چھلانگوں کو سمجھا کرتے سے مکمل ہوتی ہے۔ یعنی فرض کیجھ کہ ایک اتحلیف اپنے ہائی پاؤں سے گودا ہے۔ لہذا چھلانگ لگا کر وہ اپنے ہائی پاؤں پر ہی زمین پر آئے گا۔ یہ پہلا "ہجپ" ہوگا۔ پھر فوراً اسی پاؤں سے کوکر اپنا دیاں پاؤں زمین پر لیکتے ہوئے دوسرا "ہجپ" مکمل کرے گا۔ پھر اسی پاؤں سے کوکر اکھاڑے میں چھلانگ لگائے گا۔ یعنی تیسرا ہجپ اس طرح مکمل کر مکمل ہوگا۔

8- مندرجہ ذیل صورتوں میں یہ اتحلیف کی ناکامی تصور کی جائے گی:

(الف) اگر اتحلیف دوڑتے ہوئے یا چھلانگ لگاتے وقت یا بغیر چھلانگ لگائے جسم کے کسی بھی حصے سے اچھتے کی لکھر "نیک آف لائن" (Take off Line) کو سیاہی عبور کر جائے۔


(ب) اگر اتحلیف اچھتے والے تجھے "نیک آف بورڈ" (Take off Board) کے دامیں یا باہمیں کنارے کے باہر سے چھلانگ لگائے خواہ اس کا پاؤں اچھتے کی لکھر یا اس کی بڑھائی ہوئی سیدھے سے آگے یا پیچے ہی کیوں نہ رہے۔

نوت: اگر اتحلیف کے جو تے رپاؤں کا کچھ حصہ "نیک آف لائن" سے پیچے یا "نیک آف بورڈ" کے دامیں یا باہمیں کنارے سے باہر زمین سے محو لے لئی ہے کامی تصور نہیں ہوگی۔

(ج) اگر اتحلیف اکھاڑے میں گرتے وقت اکھاڑے سے باہر زمین کو ایسی جگہ پر محو لے جو کہ اکھاڑے میں پیدا شدہ نشان سے اچھتے کی لکھر کے نزدیک تر ہو۔

- (d) اگر تحلیل چلاںگ مکمل کرنے کے بعد اکھاڑے میں بھی چھپے کی جانب چلتے ہوئے باہر آ جائے۔
- (e) اگر تحلیل دو یا چلاںگ کے دوران میں کسی تمکی قلبازی لگائے۔
9. اگر تحلیل چلاںگ لگانے کے تختے کے نزدیک ہنچپے سے پہلے ہی چلاںگ لگادے تو اسے ناکامی صورت میں کیا جائے گا مساوی کہ اس نے ضابطہ نمبر 8 شق "ب" کی خلاف ورزی کی ہو۔
10. اکھاڑے میں تحلیل کے جسم کے کسی بھی حصے سے پیدا شدہ نشان کے اس کنارے سے جو "نیک آف لائے" کے نزدیک تر ہو عمود اپنائش فوراً کی جائے گی۔ اگر فاصلہ پورے سنتی میٹر میں نہ ہو تو اسے قریب ترین نچلے سنتی میٹر میں لکھا جائے گا۔
11. ہر تحلیل کی بہترین چلاںگ "پوزیشن" کے لیے شارکی جائے گی۔ خواہ وہ چلاںگ ہیں "پوزیشن" کی برابری کے نتیجے کے حصول کے لیے ہو۔
12. کوشش "فرائل" کا اختتام پر یا مکمل ہونا (Completion of trials): باشابطہ کوشش کو نایاں واضح کرنے کے لیے نجی کوسفید جنہذ اس وقت تک بلند نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ "تحلیل" کی کوشش اختتام پر یہ ہوئیں جاتی۔ "فرائل ہنپ" میں باشابطہ "فرائل" اس صورت اختتام پر یہ ہوتا ہے جب "تحلیل" اپنی کوشش مکمل کرنے کے بعد مندرجہ بالا اوضاع 5، 6، 7 اور 8 کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کی بغیر ایک دفعہ اکھاڑے میں سے باہر نکل آئے۔
13. دوڑنے کا راستہ (Runway): یہ کم از کم 40 میٹر اور 1.22 میٹر ± 1 سنتی میٹر چڑا ہوگا جس کو 5 سنتی میٹر جزوی 2 سنید کیروں سے واضح کیا جائے گا۔ "نیک آف بورڈ" اور "لینڈنگ ایریا" کے درمیان میں 1.22 میٹر ± 1 سنتی میٹر جزوی کوئی لسی جگہ ہوئی چاہیے جس پر تحلیل "ہنپ" اور "ہنپ" کے مطابق کے لیے تال میں ہستہ میں سے "نیک آف" لے سکے۔
14. مارکرز / نشانیاں (Markers): تحلیل اپنی سہولت کے لیے دوڑنے والے راستے کو ظاہر کرنے والی لکیروں کے باہر انتظامی کی مہیا کردہ ایک یا دو نشانیاں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ مستیاں نہ ہوں تو یہ نشان چکنے والی "ٹیپ" سے لگائے جاسکتے ہیں۔ چونایا جا کیا اسکی چیز جس سے دوڑپاشان بن جائیں کسی بھی صورت میں استعمال کی اجازت نہیں۔
- توٹ: تمام "فیلڈ ایچس" میں اگر کسی وجہ سے تحلیل کی کوشش کے دوڑنے میں بکھرا ہے نہ مانع حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو اس صورت میں ریلفری اسے قبول کو شد دینے کا اختیار رکھتا ہے۔
15. "نیک آف بورڈ" (Take-off Board): چلاںگ لگانے کا تختہ لکڑی کا بنایا ہوگا۔ اس کی لمبائی 1.22 میٹر ± 1 سنتی میٹر، چوڑائی بھی سنتی میٹر ± 2 میٹر اور موٹائی 10 سنتی میٹر ہوگی۔ اس کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کے میں ساتھ اکھاڑے کی طرف رہتے یا زم مٹی سے 10 سنتی میٹر پوری تہہ لگائی جائے گی جو اس کی سٹل سے 7 میٹر اور چھوٹی ہو گی اور سامنے کی جانب اس کا زاویہ 45 درجے کا ہوگا۔ اس کی مٹی کی تہہ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی چلاںگ کا پاؤں تختے سے آگے پڑے تو آسانی سے پنہاڑ جائے کہ بے ضابطی ہوئی ہے یا نہیں۔ مصنفوں کی سہولت کے پیش نظر میں الاقوامی مقابلوں میں چلاںگ لگانے کی لکیر کی اگلی طرف "پلاسٹین ایڈی کیسٹر بورڈ" ہے۔ مصنفوں کی سہولت کے پیش نظر میں الاقوامی مقابلوں میں چلاںگ لگانے کی لکیر کی اگلی طرف "پلاسٹین ایڈی پلائسٹین" کی (Plasticine Indicator Board) لگادیا جاتا ہے۔ جس کی سامنے والی اور پری سٹل کے پہلے 10 میٹر پر بھی پلاسٹین کی تہہ لگادی جاتی ہے۔ "نیک آف بورڈ" کو دوڑنے والے راستے اور اکھاڑے کی سٹل کے برابر ہو اوارگا زاد جائے گا۔ اس کا وہ کنارہ جو اکھاڑے کے قریب تر ہے چلاںگ لگانے کی لکیر (Take-off Line) کہلاتے گی۔ میں الاقوامی مقابلوں میں مردوں کے لیے "نیک آف بورڈ" سے اکھاڑے کے نزدیکی کنارے کا فاصلہ 13 میٹر اور خواتین کے لیے 11 میٹر کم تر ہے جو اپنائیں جب کہ اس تختے سے اکھاڑے کا آخری کنارہ کسی صورت میں 21 میٹر سے کم نہ ہو۔ باقی تمام مقابلوں میں اس تختہ کا فاصلہ مقابلوں کے

معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔



لائگ، ہپ اور ریپ کا اندر کا حصارہ


دوز نے کا راست	کم سے کم 2.75 میٹر پر
لائگ، ہپ اور ریپ	فرضی رہنمائی پکڑ
جتنے کے دریے بہدانی کی کیں ہے	

16- آکھاڑہ (The Landing Area): اس کی کم از کم چوڑائی 2.75 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 3 میٹر ہوئی چاہیے۔ اسے دوز نے کے راستے کے درمیان میں اور کوئنے کے جنخنے کی سڑک کے ہمارہ ہونا چاہیے۔ آکھاڑہ مندرجہ بالائی اشیاء سے زیادہ چوڑا ہونے کی صورت میں اسے ایک یا دو فیتوں یا نوازی پی کی مدد سے مقررہ معیار کے مطابق کیا جا سکتا ہے تاکہ دوز نے کے راستے اور آکھاڑے کی باہمی درمیانی لکھ رکھیں ہوں۔

(B) ٹریپل جمپ کے بنیادی مرحلے اور مہاریں (Basic Stages & Skills of Triple Jump)

(ا) چھلانگ لگانے کے لیے دوز (Approach / Run-up)

چھلانگ لگانے کے لیے دوز کا اندر کا حصار احتیاط کی استعداد پر ہوتا ہے۔ نوآموز احتیاط عموماً 10 قدم سے اور تجربہ کار اور مجھے ہوئے کھلاڑی 20 قدم سے دوز شروع کرتے ہیں۔ احتیاط بتدریج دوز کی رفتار برداشتے جائیں، تاکہ ”ایک آف لائس“ تک چھانپ سے پہلے دوز کی مطلوبہ انتہائی رفتار حاصل کر لیں اور اسے ایک آف بورڈ نامہ قائم رکھیں۔



(ب) ہپ (Hop)

ہپ میں ایک آف کے لیے آخری قدم پر کوئی ہٹ کوڑا نہیں کی طرف لا جائیں اور فارغ ناگ (Free Leg) کی ران کو تمیزی

سے اُنیٰ حالت میں جھلایا جائے اور سینی حالت قائم رکھتے ہوئے سامنے اور اوپر کی جانب کو دجاں۔ لبے اور سپاٹ ہاپ کے لیے کوئنے والی ناگ کو سامنے اور اوپر کی طرف اور فارغ ناگ کو پیچے اور پیچھے کی جانب لا جائیں اور کمر کو سیدھا رکھیں۔ تمام چھانگوں کا نیک آف ایک ہی جیسا ہے۔ ان میں ”زبل بھپ“ کا دوسرا اور تریسرا ایک آف بھی شامل ہے۔

نیک آف لیتے وقت مندرجہ ذیل کو مد نظر رکھا جائے:

- (i) احتلیٹ کا نیک آف کے وقت اپنے آپ کو لمبار کھنا۔
- (ii) کوئنے والے پاؤں (Take off Foot) کو مضبوطی سے سپاٹ اور پیچہ مارنے کے عمل کے طریقے سے تیزی سے زمین پر رکھنا۔
- (iii) احتلیٹ کی کوئنے والی ناگ (Take off Leg) کے کولے، گھنے اور نخے کے جزوؤں کو پوری طرح پھیلائے ہوئے رکھنا۔
- (iv) احتلیٹ کا اڑان کے دوران اس کے پہلے حصے میں کوئی بھی عمل (Flight Action) نہ کرنا (کوئنا..... انتقال..... اڑان کے عمل کی شروعات)۔

(ج) ”شیپ“ (Step)

”شیپ“ کے ”نیک آف“ کے لیے تیزی سے گھنے اور کولے کے جزوؤں کو پھیلائیں اور فارغ ناگ کی ران کو اُنیٰ حالت میں پھیلائیں۔ شیپ کے دوران عملاً نیک آف کی حالت قائم رکھی جاتی ہے۔

(د) ”بھپ“ (Jump)

”بھپ“ کی تیاری کے سلسلہ میں فارغ ناگ کو آگے اور پیچے کی جانب بڑھانا ضروری ہے۔ ”بھپ“ کے لیے ”نیک آف“ تیزی سے لیں اور فارغ ناگ کی ران کو اُنیٰ حالت میں جھلائیں۔ اڑان کے مرحلے کے دوران ”پنگ“ (Hang) یا سادہ ”سیل“ (Sail) تجھیک کا استعمال کیا جائے۔

(ه) اکھاڑے میں گرتا (Landing)

اکھاڑے میں گرنے کے لیے کمر کو آگے اور پیچے کی جانب لاتے ہوئے بازوؤں کو سامنے لائیں۔ اس عمل کے لیے عموماً دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دونوں پاؤں کو ایک سلسلہ پر رکھتے ہوئے ریت پر کھنکے کے ساتھ ہی اپنے جسم کو ناگوں کی ایک جانب لے جا کر گرنے دیں یا اپنے جسم کو اسی سیدھے میں رکھتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں پر بیٹھ جائیں۔

”ڈسکس تھرو“ (Discus Throw)

”ایون“ قدیم اولیپک کھیلوں کے پروگرام میں شامل تھا۔ ان کھیلوں کا آغاز تقریباً 1100 سال قبل از مسیح میں ہوا تھا۔ ”مازن“ کے مجسم (Myron's Statue) سے واضح ہوتا ہے کہ قدیم اولیپک کھیلوں میں ڈسکس چہوتے سے جنگی جاتی تھی جو کہ

پتھر یا وحات کی بندی ہوئی تھی لیکن اس کے وزن اور جسامت میں کوئی کسانیت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ”ایونٹ“ پہلی چدید اولپکس میں بھی شامل تھا جو یونان کے شہر استھنز میں 1896ء میں منعقد ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر 1912ء تک اسے ایک چھوٹے سے چھوڑتے یا 2.13 میٹر قطر کے دائرہ میں سے پھینکی جاتی تھی۔ 1908 کی اولپکس تک اس ایونٹ کے مقابلے دونوں ہی طریقوں سے کیے گئے تھے۔ 1914ء میں اسے چھوڑتے سے پھینکے کے طریقہ کو نئم کر کے 50.2 میٹر قطر کے دائرے میں سے پھینکنے کا ضابطہ کیا گیا۔

مقابلے کے ضابطے:

- اٹھیش کی باریوں کی ترتیب قردادہ ازی سے مقرر کی جائے گی۔
- جس مقابلی میں 8 سے زیادہ اٹھیش ہوں وہاں پر احتیط کو تین تین باریاں دی جائیں گی اور بہترین باضابطہ کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کردہ آٹھا اٹھیش کو مزید تین تین باریاں دی جائیں گی۔ آخری ”کوا لیفانگ پوزشن“ پر برابری کی صورت میں فیصلہ برابری کی مروجہ ضابطوں کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ (کسی ایسے ”فیلڈ ایونٹ“ (Field Event) میں جس کا نتیجہ (결과) فاصلے کی بنیاد پر تھیں کیا جاتا ہے برابری میں شامل تمام اٹھیش کی دوسری بہترین کارکردگی کا موازنہ کیا جائے گا اور اگر مزید ضرورت پڑے تو تیسرا بہترین کارکردگی کا موازنہ (تجزیہ وغیرہ) لیکن جہاں آخر یا اس سے کم احتیط ہوں وہاں پر پر احتیط کو پھر چھوٹشیں دی جائیں گی، لیکن اگر ایک سے زیادہ اٹھیش اپنی پہلی تین کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کرنے میں ناکام رہے، وہ تو ایسے تمام اٹھیش مقابلے کے اندازو سے پوشرت مرتب رہے باریوں کی ترتیب کے مطابق ان اٹھیش سے پہلے اپنی باریاں میں گے جنہوں نے اپنی پہلی تین کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کی ہے۔

دونوں ہی صورتوں میں:

- (الف) چوتھے اور پانچویں دور (Rounds) میں باریوں کی ترتیب پہلی تین کوششوں میں پر احتیط کی بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی کی الٹی نسبت سے مرتب کی جائے گی۔ آخری دور میں باریوں کی ترتیب پہلی پانچوں کوششوں میں پر احتیط کی بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی کی الٹی نسبت سے تھیں کی جائے گی۔
- (ب) جب بھی باریوں کی ترتیب پہلی متصود ہو تو اس وقت اگر دیا زیادہ اٹھیش کی کارکردگی ایک برابر ہونے کی بنا پر برابری ہو تو ایسے تمام اٹھیش کو اسی ترتیب سے باریاں دی جائیں گی جس ترتیب سے ان کی باریاں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقرر کی گئی تھیں۔
- 3- مقابلہ شروع ہونے سے پوشرت مقابله پر مخصوصین کی گرافی میں پر احتیط کو قردادہ ازی کے ذریعے مقرر کر دو ترتیب کے مطابق مشق کے لیے باریاں دی جائیں گی۔
- 4- جب مقابلہ شروع ہو جائے تو کسی احتیط کو ازدیاداً اسکس گرفتے کے سکھ میں اسکس کے ساتھ یا اس کے بغیر مشق کرنے کی اجازت نہیں۔
- 5- اسکس پھینکنے کا عمل دائرہ کے اندر ساکن حالت اختیار کرنے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ احتیط دائرہ کے لوہے کے رنگ کے اندر وہی طرف پہنچو سکتا ہے۔

- 6- (الف) احتیط دوران مقابلہ اسی کسی بھی جز کے استعمال کا مجاز نہیں جس سے وہ کسی قسم کی مدد حاصل کر سکے، مثلاً دیا اس سے زیادہ انٹلیوں کو ”ٹیپ“ کے ذریعے اکٹھا اندھے لینا یا جسم کے ساتھ وزن باندھ لینا جو ”اسکس ٹھرو“ کرنے کے عمل میں مدد گار ثابت ہو سکیں۔ البتہ پھینکنے والے ہاتھ پر رازم ہونے کی صورت میں اسے پہنچ سے ڈھانپا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مکھاڑی کو

دائرے میں کسی قسم کا چھڑکا د کرنے اور جوئی کے تکوے پر کوئی چیز منٹے یا دائے کی سطح (فرش) کو کھرد رہا ہے کی اجازت نہیں۔

(ب) دستانے مانن کر ڈسکس چھکنے کی اجازت نہیں۔

(ج) احتلیٹ بہتر گرفت کے لیے اپنے ہاتھوں پر کوئی موزوں چیزوں میں مل سکتا ہے۔

(د) ریڑھ کو چھٹ سے بھانے کے لیے احتلیٹ چڑے یا کسی اور موزوں چیز کی حلقی چینی استعمال کر سکتا ہے۔

7- ڈسکس چھکنے کے لیے دائے میں داخل ہونے کے بعد اگر احتلیٹ کے جسم کا کوئی حصہ دائے سے باہر یا لوہے کے رنگ کی اوپر والی سطح سے ٹھوچائے تو یہاں کامی تصور ہوگی۔

8- نام لپارے جانے اور منصف کے اس اشارے کے بعد کوکوش شروع کی جائے۔ احتلیٹ کو ایک منت کے اندر ہی اپنی کوشش شروعات کرنی ہوگی ورنہ اسے ناکامی تصور کیا جائے گا، تاہم اگر احتلیٹ چاہے تو اس منقص کر دوہوڑہ و رانیہ میں اپنی شروع کر دوہوڑش روک کر دائے سے باہر آ سکتا ہے اور پھر وہ اپنی اندر جا کر، ساکن حالت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ خنی کوکوش شروع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے اگر پہلی کوشش کے دوران احتلیٹ سے کوئی ضابطہ ٹکنی سرزنش ہوئی ہو، جس میں دائے میں سے باہر نکلنے کے ضابطوں کی پاسداری بھی شامل ہے (کوکوش شروع کرنے کے اس دورانیے کا آغاز اس لمحے سے ہو جاتا ہے جب تمام تیاری مکمل ہو جانے کے بعد متعلقہ آفیشل احتلیٹ کوکوش شروع کرنے کا اشارہ کر دے)، اگر احتلیٹ اپنی کوشش مقرر دو رانیہ کے اندر اندر شروع کرنے سے قادر ہے یا اپنی باری نہ لینا چاہے تو اسے ہاکام کوکوش قرار دیا جائے گا لیکن اگر کوکوش شروع ہونے کے ساتھ مقرر دو وقت کی معیاد ختم ہو جاتی ہے تو اسی کوشش صحیح تسلیم کی جائے گی۔

نوٹ: ایک الٹی گنتی حٹنے اور ہندسوں میں وقت خاہر کرنے والی گھڑی (Count down Watch) احتلیٹ کوکوش شروع کرنے کے لئے یا وقت سے مطلع کرنے کے لیے نہیاں نظر آئی چاہے۔ اس کے علاوہ جب مطلوبہ وقت کی معیاد میں 15 سینکنڈ رہ جائیں تو ایک اپنکا پلے رنگ کا جھنڈا بلند کر کے یا کسی اور طریقہ سے احتلیٹ کو اس امر سے مطلع کرے گا۔

9- صرف وہی کوشش صحیح شمار ہوتی ہے جو دائے کے مرکز سے 34.92 درجے کے زاویہ بناتے ہوئے گرنے کے رقبے کی لکھروں کے اندر ہوتی ہے۔

10- ہر صحیح کوشش کی فوراً پیا کش کی جائے جو ڈسکس گرنے سے پیدا شدہ پہلے نشان کے قریب ترین کنارے سے لے کر دائے کے محیط کے اندر وہی کنارے لیکن اس کے مرکز کی سیدھی میں کی جاتی ہے، اگر فاصلہ پورے سنتی میٹر میں نہ ہو تو اسے قریب ترین نچلے سنتی میٹر میں لکھا جاتا ہے۔

11- ڈسکس چھکنے کے بعد احتلیٹ اس وقت تک دائے سے باہر نہیں آ سکتا جب تک سمجھی ہوئی ڈسکس زمین پر نہیں گر جاتی اس کے بعد احتلیٹ دائے کے پچھلے نصف حصے سے باہر نکلے گا۔


12- ہر کوشش کے بعد جمیش ڈسکس والیں اٹھا کر لائی جائے اسے کسی بھی صورت میں والیں دائے کی طرف پھینکا یا لڑکا یا نہ جائے۔

13- ہر احتلیٹ کی بہترین "تحرہ" یا کارکروگی "پوزیشن" کے لیے شمار کی جائے گی خواہ یہ کارکروگی پہلی پوزیشن کی برابری کے نتائج کے حصول کے لیے ہو۔

نوت: تمام "فیلڈ ایٹھس" میں اگر کسی وجہ سے اتحلیک کی کوشش کے دوران پچھا لیے تا مناسب حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی متأثر ہو جائے تو اس صورت میں ریفری اسے تبادل کوشش دینے کا اختیار ہے۔


14- ایسی "قحوہ" جو دائرہ میں سے کی جاتی ہیں۔ ان کے لیے اتحلیک کو ایک عدد "مارکر" (Marker) استعمال کرنے کی اجازت ہے ہے وہ وقت طور پر دائرہ سے باہر لیکن بالکل اس کے ساتھ زمین پر لگا سکتا ہے۔ نکوہ "اتحلیک" اسے صرف اپنی باری کے دوران لگانے کا مجاز ہے لیکن یہ "مارکر" مصلحتی کی وجہ لگائیں میں رکاوٹ کا باعث نہ نہیں چاہیے۔ "اتحلیک" کو دسکس گرنے کی جگہ "لینڈنگ ایریا" میں یا اس سے باہر اپنے ذاتی "مارکر" لگانے کی اجازت نہیں۔

15- کوشش "ٹریک" کا اختتام پر یہ مکمل ہوتا (Completion of trials): باشابطہ کوشش کو نمایاں ا واضح کرنے کے لیے چیز کو سفید جنہدیں اس وقت تک بلند نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اتحلیک کی کوشش اختتام پذیر ہوئیں جاتی۔ دسکس قحوہ میں باشابطہ کوشش (Trial) اس صورت اختتام پذیر ہوتی ہے جب "اتحلیک" اپنی کوشش مکمل کرنے کے بعد مندرجہ بالا صفا بیٹ 5، 6، 7، 8، 9 اور 11 کی خلاف ورزی کیے بغیر ایک دفعہ دائرہ (Circle) میں سے باہر نکل آئے۔



16- پیٹنے کا دائروہ (Throwing Circle): دائروہ کا حلقوہ ہے، فولاد کی پتی کا بنا ہو جو زمین میں اس طرح گاڑا جائے کہ اس حلقوہ کا بالائی کنارہ دائروہ کی باہر والی سطح کے نہوار ہو۔ دائروہ کے اردو گردی سطح لکھریت بلکری، سختیکر یا اگسی ایسے ہی موزوں مادے سے بنی ہوئی جب کہ اس کے اندر کا حصہ لکھریت، اختالت یا ایسے ہی کسی اور پختہ میسل سے بنایا جائے جو پھٹنے والا نہ ہو۔ اندر والے فرش کی سطح نہوار ہو اور یہ ورنہ لوہے کے حلقوے سے 2 سینٹی میٹر \pm 6 میٹر پیچے ہو۔ دائروے کے اندر کا قطر 2.50 ± 5 میٹر ہو، اس کا ارم کم از کم 6 میٹر مونا، 5 سینٹی میٹر چڑا اور سفید رنگ کا ہوں چاہیے۔ دائروے کے نصف حصہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک فرضی یا انظر آنے والی لکیر جو دائروے کے مرکز سے گزرتی ہوئی اسے دو برادر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ لکیر 5 سینٹی میٹر چڑی اور کم از کم 75 سینٹی میٹر لمبی ہوگی اور دائروے کے دونوں اطراف باہر اس طرح کاٹی جائے گی کہ یہ دائروے کے اگلے نصف میں ہو۔ اس لکیر کو سفید رونگ کیا جاسکتا ہے اور یہ بلکری یا اگسی مناسب چیز کی بنائی جاسکتی ہے۔ جب اس فرضی لکیر کے پچھلے کنارے پر دائروے کے مرکز میں عمود گرا کیا جائے تو اس خط کا سکھر کے درمیانی نقطہ پر سے گزرا لازمی ہوتا ہے۔

نوجوان لڑکیاں اور خواتین (Women)	عمر لڑکے (Youth)	نوجوان مرد (Junior)	مرد (Senior)	وزن
1.000 کلوگرام	1.500 کلوگرام	1.750 کلوگرام	2.000 کلوگرام	بڑوی قطر
180 میٹر	210 میٹر	202 میٹر	219 میٹر	دریافتی پیچے حصہ قطر
50 میٹر	50 میٹر	50 میٹر	50 میٹر	مرکز میں موہانی
37 میٹر	38 میٹر	41 میٹر	44 میٹر	دھاتی کڑے کے گولہا
12 میٹر	12 میٹر	12 میٹر	12 میٹر	کنارے سے 6 میٹر
				کنارے پر موہانی
				کے قابلے پر موہانی



یکڑی یا کسی اور مناسب بیچ سے بنی ہوتی ہے جو اندر سے کھو جلی یا ٹھوس ہو سکتی ہے۔ اس کا بیر ونی حلقة کسی دھات کا گھبراگا ہوا ہو سکتا ہے یا دری صورت میں یہ دھاتی حصوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا وزن اور دری پیچے اکشیں مقبرہ معیار کے مطابق ہونا لازمی ہیں، جو بیر ونی کناروں کے ساتھ ڈھلوان کی صورت میں ٹاہو ہوتا ہے۔ اس کے دونوں اطراف ہم ٹھکل ہوتے ہیں اور ان کی سطح بالکل ہموار ہوتی ہے۔ جن کسی قسم کا کوئی گز حایا ایجاد نہیں ہوتا۔ مقابلے میں صرف انتظامی کی مہیا کروہ ڈسکس استعمال کی جائیں گی اور دوران مقابلہ میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

18- ڈسکس کا حافظی جگہ (Discus Cage): ڈسکس ایک نہایت ہی خطرناک آرہ ہے اس لیے تحلیلیں، مصنفوں اور شاکنین کی تھاں کے پیش نظر وائرے کے گرد حافظی جگہ کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ اس کی ٹھکل انگریزی کے درج "L" کی طرح ہوتی ہے۔ میں الاقوامی مقابلہوں میں اس کی اونچائی کم از کم 4 میٹر ہوتی ہے۔

17- ڈسکس گرنے کا علاقہ (Landing Sector): ڈسکس گرنے کی جگہ سندر (Cinder) گھاس والی یا کسی اور موزوں میٹریل کی ہو سکتی ہے جس پر ڈسکس گرنے کا واضح نشان بن سکے۔ گرنے کے علاقہ کا سیکر، دائرے کے مرکز سے 34.92 درجے کا ہوگا جس کو دائرے کے باہر 5 سینٹی میٹر چوڑی سفید لکبیروں سے واضح کیا جائے گا۔


”ڈسکس ٹھرو کی مہار تسلی“

نوت: تمام ٹکنیکی مرحلیں کی تفصیلات دائیں ہاتھ سے پھیلنے والے لکھاڑی کی ہیں۔

گرفت (Hold): ڈسکس کو پکڑنے کے لیے وظیریقہ استعمال کیے جاتے ہیں۔

- (I)
 - (II)
 - (III)
- ا۔ معمول کے مطابق انگلیاں پھیلا کر ”ڈسکس“ پکڑنا۔
 ب۔ شہادت اور درمیانی انگلیوں کو طاکر ”ڈسکس“ پکڑنا۔
 ڈسکس کو صحیح انداز میں پکڑنے کے لیے اس کے درمیانی دھانی حصے کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے ڈھانپ لینا چاہیے اور انگلیوں کی پوروں کو اس کے کنارے سے گرد واس طرح سے لپیٹ دیں کہ انگوٹھا انگلیوں سے تھوڑا سا علیحدہ ہو، اگر انگوٹھا بہت زیادہ کھلا ہوا ہوگا تو اس سے ہتھیلی میں خصوصی تباہی پیدا ہو جاتا ہے۔ شہادت اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر پکڑنے کا طریقہ ان احتیالیں کر لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے جو ڈسکس کو صحیح انداز میں کنٹرول نہ کر سکیں یا وہ اسے چھوڑتے وقت گھومتا ہوانہ چھوڑ پا سکیں اگر ”ڈسکس“ کا اور کا کنارہ کافی سے جلد ہٹ جائے تو اڑان کے دوران یہ ڈگ کائے گی۔ اس کو بھی بھی منجبوٹی سے پکڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ابتدائی جھلانے اور ”ٹرن“ سے حاصل کردہ مرکز گریز طاقت (Centrifugal Force) کے تحت یہ احتیال کے ہاتھ میں لگی رہتی ہے۔ ڈسکس کو آرام دہ اور صحیح انداز میں پکڑنے ہوئے رکھنا اس کے چھوڑنے کے عمل میں بہت اہم ہوتا ہے۔

”شارنگک پوزیشن“ (Starting Position):



احتیال پھیلنے کی سوت کے مقابل رفتہ من کر کے یعنی 180 درجے زاویہ پر کھڑا ہوگا۔ اس کے پاؤں عموماً کندھوں کی چڑھائی کے برابر اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ان کے پیچے قدرتی انداز میں باہر کی جانب رہیں اور احتیال کی نظر 5 سے 6 میٹر کی دوڑی پر زمین پر نمکور ہوئی چاہیے، اگر احتیال اپنے پاؤں کی طرف دیکھے


تو "فرن" کے دوران میں توازن قائم رکھنے میں مشکل پڑی آتی ہے۔ وسکس جلانے سے پیشہ جسم کا وزن دونوں ٹانگوں پر برابر برابر ہونا چاہیے۔ اتحلیت سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے جسم میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو۔ وسکس پکرا ہوا با تھہ پہلوکی جانب ذہینا لکھتا ہوا ہونا چاہیے۔ "سنارنگ پوزیشن" میں پاؤں رکھنے کے انتخاب کا درود مدار اتحلیت کے تجربے پر ہوتا ہے۔ نوآموز اتحلیت اپنادیاں پاؤں پھیلنے کی سست فرضی درمیانی لکیر کے بالکل نزدیک رکھتا ہے۔ جب کہ تجربہ کار اتحلیت اس کے دونوں جانب برابر فاصلے پر رکھتے ہیں لیکن مجھے ہوئے اتحلیت اپنابیاں پاؤں اس لکیر کے بالکل ساتھ رکھتے ہیں۔

ابتدائی جلانا کا مقصد (Preliminary Swings)

وسکس کی رفتار میں بندوق اضافے کی شرح کو تحسین کرنا۔ اتحلیت کا ساکن حالت (Inertia) میں حرکت پیدا کرنا اور ہال میں کی مناسبت سے حرکت کا طریقہ کار وضع کرنا اور کندھے، کوہے کا باہمی تحریک پیدا کرنا۔ عام طور پر نا آموز اتحلیت وسکس کو دو دفعہ جلانا پسند کرتے ہیں۔ جبکہ مجھے ہوئے اتحلیت صرف ایک دفعہ ہی جلانے ہے۔

ابتدائی جلانا (Executing Preliminary Swings)

آج کل وسکس کو آگے کی جانب جلانے ہوئے ہائی با تھہ سے کندھے کے اوپر سہارا دینے کا رواج نہیں رہا۔ بلکہ پکڑنے والا با تھہ کوہے کی سڑک کے برابر آگے کی جانب جلایا جاتا ہے جو آخر میں باہمی بازو کے سہارے کے بغیری اوپر کی جانب مژ جاتا ہے۔




یہ عمل "کنٹرول" ہال میں اور آرام دو حالت میں ہوتا چاہیے۔ جسم کا بوجھ وسکس جلانے کی سست میں باری باری ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔

"فرن" کا آغاز (Start of Turns)

دونوں پاؤں (Double Support) سے ایک پاؤں (Single Support) پر آتے ہی مرلنے کے عمل یا "فرن" کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وسکس کو دوسری پار جلانے کے اختتام کے لیے ضروری ہے کہ نصف میٹھنے کا انداز، اس طرح اپنائے کہ جسم کا وزن باہمی پاؤں کے پیچے پر منتقل ہو جائے۔ باہمی پیچے پر وزن کا انتقال اور نصف میٹھنے کا انداز اپنانے کے لیے سمجھ وقت کا انتخاب جسم کو وسکس پھیلنے کا موثر انداز اپنانے اور عمدہ توازن قائم رکھنے میں بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ مرلنے کے عمل کے ابتدائی مرحلہ میں جب کہ

اتھلیٹ کے دو ہوں پاؤں ابھی زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈسکس چھینکے کے پورے ہمل کے دوران میں یہ مرحلہ نہیں الہا ہوتا ہے۔ اس لیے دایاں پاؤں اس وقت تک آٹھا نہیں چاہیے جب تک کہ بائیں پیچے کا باہر کارن 90 درجے زاویہ تک پہنچ جائے اور اس کے گھونٹے کے ہمل کو اس وقت تک چاری رہتا چاہیے جب تک کہ پاؤں کا زارخ 120 درجے زاویہ تک پہنچ نہ جائے۔




جب دایاں پاؤں زمین سے آٹھا جاتا ہے تو ایک پاؤں پر جسم کا پروجھ آٹھائے رکھنے کا مرحلہ (Single Support Phase) شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران ڈسکس دانہ کو ہے سے بہت پیچے رکھی چاہیے۔ اگرچہ بایاں بازو دہنے کی ابتدائی حرکت کا آغاز کرتا ہے لیکن ایک دفعہ جب بائیں پاؤں کا زارخ 120 درجے زاویہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی حالت میں اسے جسم کی دائیں چاہ سے آگے بیٹھ جانا چاہیے۔

وارے کے درمیان میں گروش (Rotation Across the Circle):

(الف) ٹرن کے ابتدائی دور میں جب دائیں ہانگ زمین سے آٹھتی ہے تو یہ:

- i- گھونٹے کا ہال میں اور روازن قائم کرنے کا طریقہ وضع کرتی ہے۔
- ii- بائیں ہانگ پر جسم کا پورا وزن ڈال دیا جاتا ہے۔
- iii- کوہوں اور ہانگوں کو ڈسکس سے آگے رکھا جاتا ہے۔



- (ب) بائیں ٹانگ کے زور حركت کے تحت دائیں ٹانگ میں حرکت پیدا کرنا:
- بیان ٹھنڈا پھیلتا ہوا دائرے کے مرکز کی جانب پلا جاتا ہے۔
 - بیان ٹھنڈا ہوا 120 درجے زاویہ تک گھوم جاتا ہے۔
 - دائیں ٹانگ و طرح سے دائرے کے مرکز کی جانب لائی جاتی ہے۔



- (الف) ٹانگ کو باہر کی جانب پھیلای کرانا
جے سلوستر (J. Silvester)
- (ب) ٹھنڈا اونچا انداز کرانا
لڈوک ڈینک (Ludwik Danek)

ڈینا کے نامور تحلیلیں میں یہ دونوں طریقے کافی مقبول ہیں۔ باجے مکنیکلی (Bio-Mechanically) جے سلوستر کے طریقے میں نچلے ڈھرمیں پیدا شدہ زور حركت کو دسکس چھوڑنے کے عمل میں اوپر کے ڈھرمیں منتقل کرنے میں زیادہ سودا مند ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت بائیں ٹھنڈے کو بھی بھی پوری طرح سے سیدھا نہ کریں کیونکہ اس سے اوپر، نیچے کو درکھومنے والا انداز بن جاتا ہے۔ ”ٹرن“ کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے۔ جب تھوڑے سے وقت کے لیے انحراف کے دونوں پاؤں ہواں ہوں گے تو اسیں ہوتے ہیں۔ جس وقت اس کا دایاں پاؤں زمین سے امتحان ہے تو اس لمحے بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس کے دونوں پاؤں یا اس زمین سے انہوں جاتے ہیں۔ اس مرحلے کو ”جپ ٹرن“ (Jump Turn) کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے ”رنگ روئیش تکنیک“ (Running Rotation Technique) زیادہ موزوں اصطلاح ہے۔

جب دایاں پاؤں دائرے کے مرکز میں رکھا جاتا ہے تو اس لمحے جسم میں کندھوں اور کلہوں کے درمیان بہت زیادہ گھماو ہوتا چاہیے اور جسم کا تمام تروزن دائیں پاؤں پر ہوتا ضروری ہے۔ بیان کندھا عازیزیا دیجئے ہی رہتا چاہیے، کندھے کی یہ پوزیشن جسم میں گھماو کی وجہ سے ہے۔ جس تیزی سے دائیں ٹانگ کو دائرے کے سامنے کے حصے میں رکھا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے جسم میں موثر گھماو پیدا ہوتا ہے۔ دسکس کی اونچائی اور کریں جھکاؤ کا انحراف انحراف کی انفرادی تکنیک پر محضرا ہے۔ جب دائیں ٹانگ دائرے کے اگلے حصے کی جانب لائی جا رہی ہو تو اس پاؤں کے پنج پر گھومنے کے عمل (Pivot Action) میں مدد ہے گا۔ دائیں پاؤں کو دائرے کے مرکز میں رکھنے وقت اس کے درمیں کا انتساب ذاتی پسند پر ہوتا ہے، لیکن اس سے چیخنے کی سمت میں سیدھا رکھ کر اس پر گھومنے سے ایسا مطلوب وقت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جس سے گھومنے کا عمل لہاہا ہو جاتا ہے اور دائیں ٹانگ کو دائرے کے اگلے حصے میں رکھنے کے لیے مناسب ترین وقت مل جاتا ہے۔ جس سے اس عمل میں تسلیم، یکسانیت اور توازن قائم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دائیں ٹانگ دائرے

کے اگلے حصے میں بڑی بھرتی سے آتی جاتی ہے۔ اس کا زیادہ تر انحراف بائیں گھنٹے میں خم، کمر میں جھکا اور جسم میں گھماو پر ہوتا ہے۔ اس وقت جسم کو جلد سیدھا ہونے سے بچانے اور ڈسکس چھوڑنے کی موثر ترین انداز اپنائنا کے لیے ضروری ہے کہ جسم کا وزن بھکے ہوئے ہائی گھنٹے پر رہے اور بچکنے والا باز و اتحلیت کے دائیں پہلو سے بہت بیچھے اور پوری طرح سے پھیلا ہوا ہوتا کہ اس سے حاصل کردہ شرح رفتار موثر طریقے سے ڈسکس میں منتقل کی جاسکے۔

ڈسکس چھوڑنے کا انداز (Delivery Stance):

اتھلیٹ کے بائیں پاؤں کا زمین پر لگ جانا اس بات کا عنید یہ رہتا ہے کہ اب اتحلیٹ نے ڈسکس بچکنے کا حقیقی انداز اپنایا ہے۔ ڈسکس کو ہاتھ سے چھوڑنے سے پہلے یہ دونوں پاؤں پر متوازن حالت میں مستعدی سے کھڑا ہے اور اس کے جسم میں "پر گنگ" یا "بیو بیو" (BIO BIO) کی طرح گھما دیتے تاکہ وہ ڈسکس چھوڑتے وقت اپنی پوری قوت استعمال کر سکے۔ ٹرن کے ابتدائی حصے اور اسکے بعد والی حرکات کو ایک اچھے "ڈیبوری سائنس" میں اختتم پذیر ہونا چاہیے تاکہ ڈسکس بچکنے کے دوران "ٹرن" سے حاصل کردہ شرح رفتار کو زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ اچھی "پاؤ پوزیشن" بنانے کے لیے جسم میں گھما، گھدہ توازن، گھنٹوں میں خم اور ڈسکس بیچھے کی جانب رکی ہوئی رانی چاہیے۔ کھلاڑی کے بائیں پاؤں کا پنج اور دائیں پاؤں کی ایڑی ایک سیدھہ میں ہونے چاہیے۔ آگے رکھا ہوا بایاں پاؤں کو ہوں کوآگے چانے سے روکتا ہے، اگر بایاں پاؤں کافی بیچھے رکھ لیا جائے تو ڈسکس چھوڑنے کے دوران کندھے اور کوئی جلد کھل جانے سے ابتدائی اعمال کے دوران حاصل کردہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے۔ جب بایاں پاؤں میں مستعدی سے دائرے کے اگلے حصے میں رکھ دیا جائے تو پھر ڈسکس چھوڑنے کے عمل میں کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔


ڈسکس چھوڑنے کا عمل (Delivery Action & Release):

بائیں پاؤں کو زمین پر جما کر کنٹے کے ساتھ ہی جسم کا گھما دی سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی دایاں ٹھنڈے، گھنٹا، کوہا اور کندھا اندر کی جانب مرتنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں بازو اور ڈسکس۔ میں اس وقت بائیں ٹانگے، کوہا اور بائیں جانب کا پورا جسم، دائیں طرف کے جسم کی اندر کی جانب آنے والی حرکت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس عمل کو "ہینج پر ہیل" (Hinge Principle) کہتے ہیں۔ جسم بیچھے کی جانب جھکا ہوا ہونے کے باعث اس کا وزن جو دائیں گھنٹے پر تھا اب اور کی جانب اس طرح سے لایا جاتا ہے کہ چھاتی اور پر کی جانب اٹھ جائے۔ جس سے چھاتی کے عضلات میں شدید تراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈسکس کو ہاتھ سے چھوڑتے وقت پاؤں کو رکھنے کے لیے (پوزیشن) مندرجہ ذیل طریقے بہت محبوب ہیں۔

- دونوں پاؤں زمین پر ہی ہوتے ہیں۔
- دایاں پاؤں ہو ایں ہوں گے۔

iii۔ ایک وقت پر صرف ایک ہی پاؤں زمین سے لگا ہوا ہوگا۔

جب ڈسکس ہاتھ سے نکل جائے تو توازن برقرار رکھنے کے لیے ناگلوں کی "پوزیشن" (Reverse) تبدیل کر لی جاتی ہے۔



100x4 میٹر ریلے ریس (4x100m Relay Race):

اکثر اوقات 4x100 میٹر ریلے ریس کی مقابلے کا سب سے آخري ایونٹ ہوتا ہے۔ یہ اپنی سختی خیز اور بہ جوش خاصیت کی بنا پر مقابلے کے جوش کو نقطہ عروج پر بانجھا دیتا ہے۔ یہ شک یہ ایک انتہائی والوں الگیز اور دلچسپ مقابلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتحادیں تھملنکس میں سب سے مشکل ترین ایونٹ بھی ہے۔ یہ دوڑ اپنکس میں سب سے پہلے 1912ء میں شامل کی گئی تھی جو سویڈن کے شہر ناک ہوم میں منعقد ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک یہ دوڑ اپنکس کے ہر چھوٹے بڑے مقابلے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ دوڑ ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے اور ٹیم کے ارکان کا چنان وان کی حاضر و ماضی اور جسمانی الہیت کی بنا پر کیا جاتا ہے، اس دوڑ میں زیادہ تر چھوٹے فاصلے کی دوڑوں (100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر) کے ضابطوں پر عمل کیا جاتا ہے لیکن مندرجہ ذیل چند ایک مخصوص ضابطے ایسے بھی ہیں جن کا جانا طالب علموں کے لیے نہایت ضروری ہے۔

مقابلے کے ضابطے:

- 1- اس دوڑ کے درمیان، تیسرے اور پچھے تھمرے کی ہر آغاز کی لکیر کو 5 سینٹی میٹر چوڑی سفید لکیروں سے واضح کیا جاتا ہے اور اس سے 10 میٹر آگے اور پیچے پیلے رنگ سے 5 سینٹی میٹر چوڑی لکیر لگائی جاتی ہیں۔ ان دلوں لکیروں کے درمیانی علاقہ کو "بینن" تبدیل کرنے کا علاقہ (Take-over Zone) کہا گے جو 20 میٹر لمبا ہے یہ لکیر اس علاقہ کی پیش میں شامل نہیں۔ اتحادیت اپنے ساتھی کو "بینن" صرف اسی علاقے میں ہی پکار سکتا ہے۔ البتہ اتحادیت اس علاقے سے 10 میٹر پیچھے کھڑے ہو کر دوڑ کو شروع کر سکتا ہے، لیکن "بینن" صرف اس مخصوص علاقے "میں ہی تبدیل میں کی جائے گی ورنہ وہ ٹیم مقابلے سے خارج کر دی جائے گی۔ (بینن تبدیل کرنے کے عمل کے دوران کسی گز بروکا تھیں بینن کا تبدیل کرنے کے علاقے میں ہونے سے کیا جاتا ہے نہ کہ

تحلیل کے جم کے کسی حصے کا اس علاقے میں ہونے پر)۔ بینن تبدیل کرنے کے عمل کی ابتداء اس وقت سے ہو جاتی ہے۔ جب "بینن" وصول کرنے والے تحلیل کے باعث سے چھوٹی ہے اور یہ عمل اس وقت اختتام پر ہو جاتا ہے۔ جب بینن پکڑنے والے تحلیل کے باعث میں بہتی جاتی ہے۔ تحلیل کو ستانے یا باخوبی پر کوئی ایسی چیز ملنے کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے بینن باعث سے پھسلنے لے پائے۔

- 2- تحلیل اپنی سہولت کے لیے اپنی راہداری میں صرف انظامیہ کی مہیا کردہ صرف ایک نشانی یا "چیک مارک" (Check Mark) کی اسکا ہے۔ جس کے لیے چکنے والی ایسی "میپ استعمال کی جاسکتی ہے جس کا زمگ "مزیک" کے نشانات سے مختلف ہوا اور اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 40 سینٹی میٹر اور چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہو گی۔ اگر "مزیک سنڈر" (Cinder) یا گھاس والی ہو تو تحلیل اپنے جوچتے سے کرید کر نشان لگا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ مزیک میں کوئی اور نشان بنانے کی اجازت نہیں۔

- 3- پہلا تحلیل "بینن" (Baton) باعث میں پکڑ کر دوڑتا ہے اور اسے وہ اپنے دوسرے ساتھی کو پکڑا دیتا ہے، جو اس سے آگے ہے 100 میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے دوسری تحلیل اپنے حصے کا 100 میٹر دوڑنے کے بعد تیر سے ساتھی کو پکڑا دیتا ہے اور تیر 100 میٹر دوڑنے کے بعد اپنے چوتھے ساتھی کو دے دیتا ہے۔ چوتھا ساتھی آخری 100 میٹر دوڑ کر دوڑ کا اختتام کرتا ہے۔ یہم کی ہار جیت کا فیصل آخري یعنی چوتھے تحلیل کے دوڑ قسم کرنے کی "پوزیشن" پر ہوتا ہے۔

- 4- ہر تحلیل اپنے حصے کی دوڑ بینن باعث میں پکڑ کر مکمل کرے گا، اگر یہ باعث سے گرجانے تو وہی تحلیل اسے دوبارہ انداخت کر دوڑے گا۔ بینن دوبارہ پکڑنے کے لیے وہ اپنی راہداری سے باہر جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ دوڑ کا فاصلہ کم نہ ہوئے اور وہ کسی دوسرے تحلیل کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنئے۔ بینن باعث سے گرجانے کی بنا پر تحلیل "لوسکوالیخانی" نہیں ہوتا۔

- 5- یہ تمام دوڑ راہداریوں میں دوڑی جائے گی۔ یہم کا ہر تحلیل اپنی اپنی شخص کردہ راہداری میں دوڑ مکمل کرے گا، جو کہ ابتداء میں قرص اندازی سے اسے ملی ہو۔

- 6- اپنے دوسرے ساتھیوں کو بینن پکڑانے کے بعد تحلیل کو اپنی اپنی راہداریوں میں رہنا پایا ہے تاکہ رکاوٹ پیدا نہ ہو لیکن اگر کوئی تحلیل اپنے حصے کی دوڑ مکمل کرنے کے بعد جان بوجھ کر دوسرے تحلیل کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنے جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی متاثر ہو تو اس کی یہم دوڑ سے خارج کر دی جائے گی۔ بینن پکڑانے کے دو ران ساتھی کو دھکیل کر یا کسی اور طریقے سے اعانت یاد دینے کی ممانتی ہے۔

- 7- ہر ایک یہم چار تحلیلیں پر مشتمل ہوتی ہے ایک، فتح جب کوئی یہم ابتدائی دوڑ میں شرکت کر چکے تو اس میں صرف دو مقابلہ تحلیلیں دوڑ کے اگلے تمام راڈیوز میں شامل کیے جاسکتے ہیں، یہ جادو ل صرف ان ہی تحلیلیں میں سے ہوگا جن کے نام اس مقابلے کی فہرست میں ورج ہیں خواہ ان کا ایونس کوئی بھی ہوں۔ مقابلے کے چھپے ہوئے پروگرام میں ہر راڈیوز کی ہلکی ہیٹ کے پہلے بلاوے (First Call) کے مختص کردہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے ہجڑہ فارم پر اعلان کرنا ہوگا کہ یہم کن چار تحلیلیں پر مشتمل ہو گی اور وہ کس ترتیب سے دوڑیں گے۔

- 8- یہم کے کسی تحلیل کو دوڑ کے ایک سے زیادہ مرحلے دوڑنے کی اجازت نہیں ہو گی۔

"بیٹن" (Baton)


یہ لکڑی، دھات یا کسی مخصوص اور بے چک مادے کی تالی کا بنا ہوگا۔ ٹکل میں گول اور بغیر جوڑ ہوگا، اس کی لمبائی کم از کم 28 سینٹی میٹر اور زیادہ سے زیادہ 30 سینٹی میٹر ہوگی۔ اس کا وزن کم از کم 50 گرام اور مجموع 12 سے 13 سینٹی میٹر ہوگا۔ اس کا رجسٹ شوٹ خوب ہو گا تاکہ دوڑ کے دوران نمایاں نظر آئے۔

ریلے ریس کی مہارت (Skill of Relay Race)

یہ دوڑ ٹیموں کے درمیان ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں کسی ٹیم کی کارکردگی کا انحصار بھیگنی احتیار سے دوڑ کے شروع کرنے، بیٹن پکڑ کر دوڑ نے اور اس کے تبدیل کرنے کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ پہلا اتحلیت بیٹن اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دوڑ "کروچ سارٹ" (Crouch Start) سے شروع کرے گا اور پھر اسے دوسرا اتحلیت کے باسیں ہاتھ میں دے گا۔ دوسرا اتحلیت دوڑ کا آغاز اپنی راہداری کے باہر والے حصے میں سے کرے گا جو اسے تیرے ساتھی کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ یہ اتحلیت اپنی راہداری کے اندر والے حصے میں دوڑتا ہوا اسے حاصل کرے گا اور بیٹن کی آخری تبدیلی یا اکل ہاتھی تبدیلی کی طرز پر کی جائے گی یعنی وہ اتحلیت اپنی راہداری میں اس کے دائیں جانب کے حصے میں دوڑتا ہوا اسے اپنے دائیں ہاتھ میں حاصل کرے گا۔ ریلے ریس میں یہ کاہر اتحلیت اپنے حصے کی دوڑختم کر کے اپنے ساتھی کو "بیٹن" پکڑاتا ہے۔ اس طرح "بیٹن" پورا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس دوڑ میں اتحلیٹس کے دوڑنے کی صلاحیت کے علاوہ "بیٹن" تبدیل کرنے کی مہارت بھی بہت اہم رکھتی ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل مہارتوں سے کچھ کراس دوڑ میں بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

گرفت:


دوڑ کا آغاز کروچ سارٹ سے (مخصوص انداز میں بینڈ کر) کرنے کی صورت میں اتحلیت کی گرفت "بیٹن" کے پچھلے سرے پر ہوتی ہے۔ باقی ماندہ حصہ سامنے کی طرف بڑھا رہتا ہے۔ (یہاں گرفت کے صرف طریقہ "ب" کی وضاحت کی گئی ہے) اتحلیت کو چاہیے کہ اس کی چھوٹی انگلی کے ساتھ واں دونوں انگلیاں "بیٹن" پر لپٹی ہوئی ہوں یعنی "بیٹن" کو سختی اور ان انگلیوں نے پکڑ رکھا ہو اور باقی دونوں انگلیاں اور انگلوٹھا آڑا ہوں اور زمین سے لگے ہوئے ہوں۔ دوڑ میں اچھی کارکردگی کا انحصار مندرجہ ذیل دو عناصر پر ہوتا ہے:



- (الف) ہر اٹھیٹ دوڑ میں مختلف شدہ حصہ کتی تیزی سے طے کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس کی جسمانی استعداد اور دوڑ کے دوران بیٹھن کو پکڑ کے رکھنے پر ہوتا ہے اگر وہ بیٹھن کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑے رکھے تو اس کی کارکردگی پر خفیہ روکش ہو گا۔
- (ب) بیٹھن تبدیل کرنے کی تکنیک اور اس کو تبدیل کرنے کے وقت اس کی اصلی رفتار۔


بیٹھن تبدیل کرنے کے مروجہ طریقے:

- 1- بازو کی نیچے سے اوپر کی جانب حرکت سے بیٹھن پکڑنا (Upsweep Technique)



اس طریقہ میں بیٹھن کی تبدیلی 1.2 سے 2 میٹر کے فاصلے کے درمیان ہوتی ہے اور بیٹھن سیدھے ہے بازو کے نیچے سے اوپر کی جانب لائے کے عمل سے دوسرے اٹھیٹ کو دیا جاتا ہے اور اس وقت بیٹھن پکڑنے والے ہاتھ کا رخ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ اٹھیٹ کو ہر ہمکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں حرکت بیدان ہو اور انگوٹھی انگلیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اس طریقہ کار میں انگوٹھی اور شہادت کی انگلی کے درمیانی حصہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو دوسرے طریقوں کی نسبت بہت بچوٹا حصہ ہے۔ اس طریقے میں دوسرا خامی یہ ہے کہ تبدیلی کے دوران بیٹھن اکثر بہت آگے سے پکڑا لیا جاتا ہے جس کو اٹھیٹ دوڑ کے دوران انگلیوں میں آگے سرکاتا ہے جو بعض اوقات ہاتھ میں سے گرنے کا سبب ہن جاتا ہے۔


- 2- بازو کی اوپر سے نیچے کی جانب حرکت سے بیٹھن پکڑنا (Down Sweep Technique)



اس طریقہ کا میں بیٹھن پکڑنے کا عمل 2 سے 3 میٹر کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ فاصلہ اٹھیٹ کی جسمانی امیت پر محض

ہوتا ہے۔ اس طریقہ میں بیٹن وصول کرنے والا اتحلیت مقرر کردہ زبانی اشارے پر دوڑ کے اس حصے کی مناسبت سے اپنا دیاں یا دیاں ہاتھ یچھے کی جانب کرے گا جو کندھے سے اوپر چاند ہو۔ اس وقت اس کا جسم تھوڑا آگے کی جانب جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اتحلیت اور پر کی جانب، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا پوری طرح سے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ باقی تین انگلیاں تھوڑی سی موڑی ہوئی ہوئی چاہیں۔ بیٹن پکڑنے والے بازو کی اور پر سے یچھے کی جانب حرکت سے اسے یچھے پھیلانے ہوئے ہاتھ پر اس طرح رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا اگلا سرا تھوڑا اس اور پر کی جانب اٹھا ہوا ہو۔

3۔ بیٹن کو سیدھا حلکلتے ہوئے پکڑانا (Push Technique)



بیٹن تبدیل کرنے کا یہ طریقہ حالیہ سائنسی تحقیق پر بنی ہے جو بھی حال ہی میں روانی پر ہوا ہے اور یہن الاقوای سلسلہ پر اس سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اگر اس طریقہ کا دوسرے طریقوں کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ ان سب کی نسبت زیادہ آسان اور فطری ہے اور اس کی تکنیک چھوٹے فاصلے کی دوڑوں (Sprints) کے اصولوں سے مبنی مطابقت رکھتی ہے۔ اس میں ہر دفعہ بیٹن تبدیل کرتے وقت دوسرے طریقوں کی نسبت ایسا فاصلہ (Free Space) زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو کوئی اتحلیت بھی نہیں

دوڑتا بلکہ اسے صرف بیٹن ہی ملے کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی تبدیلی کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بیٹن پکڑنے والا اتحلیت پہلے سے یہ ملے شدہ زبانی اشارے (Verbal Command) کے ملنے پر دوڑ کے اس حصے کی مناسبت سے اپنا دیاں، دیاں یا بازو یا ہاتھ یچھے کی جانب پھیلائے گا۔ (پہلے اور تیرے تبدیلی کے علاقے میں دیاں یا بازو اور دوسرے میں دیاں) جو بالکل افقی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا اسائیچھے کی جانب ہو۔ ہاتھ کی تمام انگلیاں ذہنیلی اور لیلی ہوئی ہوں اور انگوٹھی ان کے ساتھ زاویہ قائم ہاتھ ہو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے۔ بازو کو حرکت دیئے بغیر اسی حالت میں اس وقت تک رکھیں جب تک کہ بیٹن تکمیل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتا۔ یچھے سے دوڑ کر آنے والا اتحلیت ”بیٹن“ پکڑنے کے صحیح لمحے کا تھیں کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ بیٹن پکڑنے والا اتحلیت اس کی پہنچ میں آگیا ہے تو وہ ملے شدہ زبانی حکم دے گا۔ جس کو سننے ہی بیٹن پکڑنے والا اتحلیت اپنا ہاتھ یچھے کی جانب پھیلا دے گا اور بیٹن پکڑنے والا اتحلیت بیٹن کو سامنے کی جانب دھکلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے گا۔

بیٹن پکڑنے والا اتحلیت کے دوڑ شروع کرنے کا طریقہ:

4 x 100 میٹر کی ریلے ریس میں بیٹن پکڑنے والا اتحلیت اپنی دوڑ کو بیجا دی طور پر دو قدم کے شارٹ سے شروع کرتے ہیں۔

دوز شروع کرنے کے لئے دوڑ نہیں



(1)
اٹ



(2)

"کروچ شارت"

"اپ رائیٹ شارت"

- "کروچ شارت" (Crouch Start)

(ایک خاص انداز میں اکڑوں پر بیٹھ کر دوز شروع کرنا۔)

- 2- "اپ رائیٹ شارت" (Upright Start)

سیدھے کھڑے ہو کر دوز شروع کرنا۔

چینی قدم کے شارت میں اتحلیت وہی پوزیشن

اپنا لیتا ہے جیسا کہ وہ "شارت بلکس"

(Starting Blocks) سے شارت لیتے وقت

"آن یور مارکس" کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مساوئے

سر کے جو یچھے کی طرف مراہوا ہوتا ہے تاکہ دوز کرتے

والے ساتھ اتحلیت (Incoming Runner) پر

نظر رکھ جاسکے۔ جوئی وہ اتحلیت شخص شدہ جگ کے

نزو دیکھ پہنچتا ہے تو وہ "سیٹ" (Set) پوزیشن اختیار کر

لیتا ہے۔ مگر اپنے آپ کو ایک بازو پر سوارا دینے رکھتا ہے۔ جب کہ دوز کر آنے والا اتحلیت شخص شدہ نہیں پہنچتا ہے تو وہ سامنے کی جانب من کر کے پوری قوت سے دوز شروع کر دیتا ہے۔

دوسری قدم کا شارت مختلف اعتبار سے زیادہ آسانی سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ میٹن پکڑنے والا اتحلیت (Outgoing Runner) اپنا اگلا پاؤں اپنی راہداری کی باہر والی لکیر کے قریب دوز نے کی سمت میں رکھ لیتا ہے جب کہ پچھلا پاؤں اس سے 20 سے 30 سینٹی میٹر یچھے اس طرح سے رکھا جائے گا کہ اس کا رخ اندر کی جانب ہو۔ دونوں بازوں کو دوڑھوں سے ذرا بیچھے لکھنے کی جانب پکھلے ہوئے ہوں۔ سر یچھے کی جانب مراہوا ہو اور گھٹنوں میں نمایاں قدم ہو۔ جوئی دوز کرنے والا اتحلیت شخص شدہ نہیں پہنچتا ہے تو میٹن پکڑنے والا اتحلیت گھٹنوں میں فرم رکھتے ہوئے آگے کی جانب جھک کر جسم کا بو جھ بائیں ناگہ پڑال دیتا ہے، جیسے عین ناگہ میں حرکت کا آغاز ہو۔ اسی لمحے سامنے کی جانب گوم جائے گا اور دونوں بازوں پر دیز دوز نے کے طریقے سے عمل ہو جائیں گے اور پھر اتحلیت اپنی پوری قوت سے چھوٹے فالصلوں کی دوزوں کی طرح دوز شروع کر دے گا۔



علم الصحّت (Health Education)

علم الصحّت کی تعریف اور جسمانی تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق

(Definition of Health Education & its Relationship with Physical Education)

صحّت و علم الصحّت:

"ہیلتھ سائنس انجینئرنگ" یا "ہیلتھ انجینئرنگ"، انفرادی اور اجتماعی فلاج کے لیے سودمند تعلیم ہے۔ تعلیم کا اس سے بہتر کوئی اور پہلو نہیں۔ ہر طبق تحقیق بہت سی تی معلومات مہیا کرتی ہے۔ ان تحقیقات کی بنا پر سرطان کی شرح اموات میں کمی، دل کی بیماریوں سے بچاؤ، ذاتی و دماغی امراض اور جسمانی محدودی میں کمی، آنکھ کی بیاناتی، اٹی بی، پولیو اور وائرس کے امراض جیسی بیماریوں سے بچا جاسکتا ہے۔ ان معلومات کے مطابق اپنی زندگی کوڈھال کر ہر شخص انفرادی سطح پر اور اسلامی سطح پر مستفید ہو سکتا ہے۔ علم الصحّت ایک اور طرح سے بھی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحّت اور تعلیم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دراصل صحّت تعلیم کے عمل کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اس لیے یہ مقدم ہے۔ صحّت قابل حاصل مقصد ہے اور تعلیم ایسا طریقہ عمل ہے جس کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحّت زندگی کی ایک ایسی نعمت یا خوبی ہے جس کے باعث کوئی شخص تعلیم سے زیادہ زیادہ سمجھید ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص بیان یا تحکما ہوا تو اس کے لیے کوئی تی چیز سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سمجھنے کا عمل بھی اتنی سرعت سے عمل پذیر نہیں ہوتا، جس وقت آپ خود یا اپنے کسی عزیز کی تکلیف کے باعث پریشان ہوں تو اس وقت آپ اپنی پوری توجہ کسی بھی چیز پر اچھی طرح سے مرکوز نہیں کر سکتے۔

"دلبرٹ آبرٹ آفر" (Delbert Oberteuffer) نے کہا تھا کہ انسان کو اپنی صحّت کی حفاظت کرنے اور اس میں بہتری کے لیے تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعلیم سے پوری طرح استفادہ کرنے کے لیے مکمل طور پر صحّت یا ب ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ تعلیم اصحت کی انفرادی حیثیت نصاب میں شامل و دوسرا مضمایں مثلاً جغرافی، حساب وغیرہ سے مختلف ہے۔ اس میں شامل تمام مضمایں انسانی صحّت کے ہر ایسے پہلو اور مسئلے سے متعلق ہیں جو بہتر انداز میں زندگی گزارنے کے قابل ہناتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ فوکس انسانی رو یہی میں ثابت تبدیلی کو دیکھی گئی ہے۔

تعلیم اصحت و صرف صحّت سے متعلق سائنسی معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ صحّت منداز زندگی گزارنے کا شعور بھی پیدا کرتی ہے، پنچائی حالات یا مشکل وقت میں دلنشی مدد کرنے میں مدد ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے روزمرہ کے معمولات پر ثابت طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے علم اصحت مضمایں کا بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ عمل بھی ہے، جس کے ذریعے صحّت کو بحال رکھا جاسکتا ہے۔ یہ تحقیقت ہے کہ آپ کے موروثی، ما جو لیتی اور روزمرہ کے معمولات کے باہمی اڑات کا آپ کی صحّت پر گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے صحّت کے متعلق علم اور اسے قائم رکھنے کی آگئی بہت اہم ہے۔

تعلیمِ اصح ایک ایسا سائنسی نظریہ ہے، جسے بعض اوقات قابل عمل صحت مندانہ زندگی گزارنے کے طور پر چانا جاتا ہے۔ پس یہ ایک کامل سائنسی علم نہیں، اگرچہ اس کا بنیادی مواد، انتہائی، فیزیا لوگی، بکتریا لوگی، میڈیسین وغیرہ جیسے سائنسی علوم سے لیا جاتا ہے، تاہم یہ کامل طور پر ان علوم پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ان میں سے چند خصوصی چیزوں اخذ کر لیتا ہے، جو یقیناً بہتر اور ثابت زندگی گزارنے میں مدد و نفعی ہیں۔ یہ طب کی طرح بیماریوں کے متعلق علاج میانگین کرتا بلکہ عوام میں یہ شور پیدا کرتا ہے کہ صحت مندانہ طور طریقے اپنا کر کے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یادوران بیماری ایسے طریقے اپناۓ جائیں کہ اسے مزید چیز سے روکا جائے۔ یہ عوام کو ایسا طریقہ قبول فراہم کرتا ہے جس کی بد دلتوں و غصی یا سماجی زندگی بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

علمِ اصح کا اہم ترین مقصد عوام کو صحت سے متعلق معلومات میا کرنا ہے۔ پروفیسر رائڈر (Prof. Rider) کے مطابق اسکا دائرہ کارصحت کی خوافات کرنا اور جسمانی، روحی اور جذباتی صحت میں بہتری پیدا کرنا ہے۔

صحت کی خواقت اور اسے قائم رکھنا ہر شخص کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اگر زندگی (Health) "ہیلتھ" (Health) مندرجہ ذیل سے اخذ کیا گیا ہے۔ Whole (کامل)، Hale (خوش و خرم) اور Healing (بیماری سے صحت یابی) اس سے مراد کسی شخص کا کامل طور پر صحت یاب و صحت مند ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت پورے کے پورے انسان سے وابستہ ہے، جس میں اس کی دیانتداری، پنچھلی، سالمیت، اچھی صحت مندانہ حالات اور خوش حال ہونا شامل ہے۔ صحت ایک وسیع النوع نظریہ ہے۔ اس کا سب سے نمایاں پہلو جسمانی صحت ہے، جو جسم کی میکانیائی حرکات پر بنی کار کر دی ہے۔ روحی صحت سے مراد سمجھ اندماز میں سوچنا اور سمجھنا ہے۔ جبکہ جذباتی صحت ایسے احساسات کی پہچان سے متعلق ہے جس میں ذرغم و غصہ وغیرہ شامل ہیں اور مختلف حالات میں موقع کی مناسبت سے ان کا سمجھ اندماز میں اظہار کرتا ہے اور ایسے نامساعد حالات جن میں افسرو دل، روحی امتحان، دباؤ، کھجور ایسا پریشانی کی حالت میں ہونے پر قابو پاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک روحانی صحت سے مراد نہیں عقائد پر بنیتی سے عمل بیرون ہونا ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ نے ایسے شخصی اصول اپنالے ہیں جن سے انہیں رہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سماجی صحت انسان کی اس خوبی سے متعلق ہے، جس کی بد دلتوں و غدوں سے انسانوں سے اپنے سماجی رشتے اور تعلقات استوار کرتا ہے۔ سماجی صحت کے اس نظریہ کے مطابق ایک فرد سے پورے معاشرہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ ایک ایسے معاشرے میں کوئی شخص صحت مندرہ سکے جس میں اسکی بنیادی، جسمانی اور جذباتی ضروریات پوری نہ ہوں۔ اس میں خوراک، لباس، گھر اور اچھے ماہول کے علاوہ انسان کے بنیادی حقوق بھی شامل ہیں۔ آپس میں الگ ہوا اُن پہلوؤں کی بنا پر صحت کا نظریہ بہت پوجیدہ ہے۔ علمِ اصح بحیثیت، جمیعی ان تمام پہلوؤں میں ایک خاص حد تک متوازن اور مناسب بہتری پیدا کرنے کا موجب ہے۔ مختلف حیم کی دردیں، عاقص جسمانی کا رکروگی بیماری ایسی جسمت شہونے کی نشانیاں ہیں۔ کوئی بھی بیماری اچاک یا حادثاتی طور پر تمود ارشیں ہوتی۔ کچھ بیماریوں کے جراحتی انسان میں موروثی طور پر منتقل ہو جاتے ہیں جبکہ انسان کے رہن کرن اور ماہول کا بھی بیماری پھیلانے میں بہت عمل دخل ہوتا ہے، مثلاً سکریٹ نوٹی یا ماہولیاتی آلوگی سے پیچھوؤں کا سرطان ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو آبادی کے صرف کسی خاص طبقے پر اثر اندماز ہوتے ہیں، مثلاً اعلیٰ تحریم یا اقت طبقہ حفاظان صحت کے اصولوں سے زیادہ باخبر ہونے کی وجہ سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جوانوں کی نسبت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں مغربی ممالک کی نسبت خواتین میں چھاتی کے سرطان کی شرح زیادہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیمِ اصح

بیماری اور رہی صحبت کے بجاوں میں بہت اہم ہے۔ اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو جن کے کسی خاص بیماری میں جلتا ہونے کے امکانات زیادہ ہوں، ہدایات اور مشاورت کے ذریعے کم سے کم کے جاسکتے ہیں مثال کے طور پر "ایڈز" (Aids) یا "ٹی بی" (T.B.) میں جلتا ہونے کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے متعلق جانکاری دے کر کافی حد تک ان سے بچا جاسکتا ہے۔ علم اصحت ایک ایسا وسیع اعلیٰ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایسی مفید معلومات مہیا کی جاتی ہیں جن کی مدد سے بیماری کے خلاف حفاظتی مداری اختیار کرنے سے نہ صرف انفرادی صحت میں، بلکہ اس علاقے کی پوری آبادی کے رہ یہے میں صحت مندانہ تبدیلی پیدا کی جاسکتی ہے جو درج ذیل ہے۔

۱- بینیادی علم اصحت

۲- ٹائوفی علم اصحت:

بینیادی علم اصحت کا براہ راست تعلق ان لوگوں سے ہے، جو صحت مندانہ ہیں۔ یہ بیماریوں کی حفاظتی مداری اور حفظانہ صحت کے اصولوں سے متعلق ہے، جو بچپوں اور نوجوانوں کے لیے اشہد ضروری ہے۔ اس میں "ہاگھن" خوارک اور مختلف متدبّری بیماریوں کے حفاظتی اقدامات کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ جن سے ان کے نظریات اور رویوں میں ثابت تبدیلیاں پیدا کی جاسکتی ہیں اور کسی بیماری کی خصوصی مداری اختیار کرنے سے نہ صرف خود کو بچایا جاسکتا ہے بلکہ اس کے پھیلنے کا سدہ باب بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ صحت انسان کی زندگی پر ثابت طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔

۳- ٹائوفی علم اصحت:

یادیے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو بیمار ہیں۔ اس کے ذریعے فراہم کردہ معلومات سے دامن المرض مریضوں کے نظریات اور رویوں میں خارجہ خواہ تبدیلی لائی جاتی ہے جو ان کی صحت یا ان کے لیے اشہد ضروری ہوتی ہے، مثلاً سگریٹ نوشی ترک کرتا یا ملاج کے دوران اگر بیماری کی نشانیاں دوبارہ ظاہر ہوں تو ابتدائی مرحلے میں ہی اس کا علاج کرنا یا متعدد امراض کے حال افراد از خروج حفاظتی مداری اپنائیں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کا موجبہ نہ ہیں۔

بینیادی علم اصحت تعلیمی اداروں میں زیادہ صورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ماحول کو صحت مندانہ بنا جائے اور طالب علموں کو صحت کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر اور مگر میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیمی اداروں میں علم اصحت کی کارکردگی کا مظاہرہ آسان فہم بینیادوں پر کیا جائے تاکہ طلب آسانی سے سمجھ سکیں کیونکہ وہ قوم کے مستقبل کے معماں ہیں۔ صحت سے متعلق بینیادی معلومات کام کرنے کی جگہوں اور کارخانوں میں بھی مہیا کی جانی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ فی وی، بریڈیو، اخبارات اور سائل کے ذریعے یہ معلومات عام لوگوں تک بھی پہنچائی جائیں تاکہ صحت کے تعلق لوگوں کے رویوں میں صحت مندانہ تبدیلی لائی جاسکے۔

۴- تعلیمی اداروں کے ذریعے اس سے درج ذیل مقاصد حاصل کیے جانے چاہئیں:

- جسمانی نشودہ نما اور مجموعی شخصیت کی تکمیل۔

- 2. صحت سے متعلق شعور پیدا کرنا۔ مختلف بیماریوں کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے حفاظتی اقدام کی آگئی۔
- 3. حفاظت صحت کے اصولوں، معاشرتی ذمہ داریوں اور بدلیاتی کیلیات کے بہتر استعمال کی آگئی۔
- 4. غیر تعلیم یافتہ عوام کو اس کے علم اور اس کے فوائد کا شعور فراہم کرنا۔
- 5. صحت سے متعلق معیار قائم کرنا۔ اساتذہ اور طلبہ کی رہنمائی کرنا، لکھ شاپ، پڑھائی کے کروں اور طلبہ کے رہائشی کمروں میں مناسب روشی، پانی، گینڈی کی صفائی اور ماحول کو صاف رکھنی کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔
- 6. ہر طالب علم کا طبعی معاہدہ کرنا اور بیماری یا تکلیف کا ابتدائی دور میں ازالہ کرنا۔
- 7. ثابت اندماز میں سماجی زندگی گزارنے کا شعور پیدا کرنا اور اسے عملی جامد پہنانے کی وحدت افزائی کرنا۔

علم الصحت کی تعریف:

- 1. ایک ایسا عملی طریقہ کارہے جس سے صحت سے متعلق معلومات و تجربہ حاصل ہوتا ہے اور یہ تعلیم، فرد، خاندان اور "کیونٹی" کی صحت سے متعلق ہمارے علم، روایوں اور روزمرہ کے مہمولات پر مضیداً راست مرتب کرتی ہے (Thomas wood)۔
 - 2. یہ ان تجربات کا سرچشمہ ہے جو فرد اور "کیونٹی" کے روایوں، معلومات، عادات سے معاشرے کو صحت مند بناتے ہیں (Grout)۔
 - 3. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے جاننے سے اور جس کے ذریعے سے زندگی میں ہمارا طرزِ عمل متاثر ہوتا ہے اور ہمارے فہم و شعور، روایوں، اقدار، کروار اور معلومات میں ایسی ثابت تبدیلیاں لانے کا موجب ہتا ہے جس کا انسانی صح۔ سے متعلق ہے۔
 - 4. یہ ایک ایسا علم ہے جو فرد اور "کیونٹی" کے صحت مند طرزِ عمل اور اس کے تدریسی مرامل کا احاطہ کرتا ہے۔ زندگی کی محتاجِ عزیز، صحت ہے۔ یہ جسم و قوانینی کی اعلیٰ صلاحیتوں کے برائے کار لائے میں مدد و معاون ٹاہر ہوتی ہے۔ روزمرہ کی بہتر کارکردگی کے لیے انسان کی صحت کا رقرار رہتا ہے جو ضروری ہے۔
- صحت کی تعریف مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق کی ہے جو درج ذیل ہے۔

- 1. "عالیٰ ادارہ صحت" نے صحت کی تعریف یوں کی ہے کہ "صحت" ایک ایسی علامت ہے جس میں فرد جسمانی، ذہنی، سماجی اور معاشی لحاظ سے مطمئن اور ہشاش بیٹھا ہو اور اس میں کمزوری کا شاپے بک نہ ہو۔
- 2. جب جسم کے تمام اعضا اپنے معمول کے مطابق کام کریں اور غیر مناسب تھکان نہ ہو۔ انسان خوش باش رہے۔ حوصلہ، ہمت اور ذہنی بیداری ساتھ دیں۔ سماجی، بہبود میں گہری و پیچی ہو تو انسان صحت مند سمجھا جا سکتا ہے۔
- 3. صحت سے مراد ذہنی اور جسمانی تکریتی ہے۔ صحت زندگی کی وہ خوبی ہے جو انسان کو اس قابل ہاتا ہے کہ وہ زیادہ درجک زندگ رہے اور بہتر خدمت کر سکے۔
- 4. صحت مند انسان حقیقت میں تکڑات سے آزاد ہوتا ہے اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ گزر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
- 5. صحت ایک ایسی صفتی کیفیت ہے جو اپنے ماحول میں ایک فرد کے مجموعی عمل کا حاصل ہوتی ہے جو اس فرد کو شخصی سطح پر اطمینان پہنچ اور معاشرتی سطح پر ایک کار آمد زندگی گزارنے کا موقع عطا کرتی ہے۔

- 6۔ صحت انسانی جسم کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو پُر سرت کا میاب زندگی گزارنے کے قابل ہاتی ہے۔
- 7۔ صحت زندگی کی ایسی صفتی کیفیت ہے جو کسی شخص کی جسمانی طبائیت، اس کے ہنچی اور جذباتی و عمل کے سلسلوں کے مابین کار فرما رہتی ہے اور یہ سب کچھ معاشرتی و پچیوں کے ان حالات میں موجود ہوتی ہے جن میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ عوامل درج ذیل ہیں:

- ا۔ وراشت ii۔ نشوونما اور ترقی iii۔ ماحول عمل فصل وغیرہ 7۔ عمل فصل وغیرہ
- 8۔ صحت، جسم، ذہن اور روح کی طبائیت کا ایک ایسا احساس ہے جس میں قوت محفوظہ کا خیال موجود ہوتا ہے۔
- 9۔ صحت زندگی کی ایسی صفت ہے جو انسان کو اپنی تعلیم سے پیش از پیش استفادہ کرنے کی صلاحیت بخشنده ہے۔

علم الصحت کا جسمانی تعلیم کے ساتھ تعلق:

معنوی لحاظ سے تعلیم الصحت اور جسمانی تعلیم اگل اگل حیثیت کے حامل ہیں، لیکن ان علم کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ اپنے اثرات کے لحاظ سے جسمانی تعلیم صحت کو برقرار رکھنے میں پیش پیش ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صحت کی ن صرف تحلیل، بھیلوں کے میدان، ہجر اکی کے تالابوں اور تھیزیم میں ہی ضرورت ہے بلکہ ہر جگہ اور خصوصاً کردار کی تحریر میں صحت کا برقرار ہونا لازمی ہے۔ ڈاکٹروں، نرنسوں اور جسمانی تعلیم کے اساتذہ کے علاوہ عام لوگوں کو بھی صحت کی اہمیت اور اثرات کو مرد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت سے ماہرین تعلیم تعلیم کرتے ہیں کہ جسمانی تعلیم کا لامتحب عمل، پسندیدہ صحت مندانہ لامتحب عمل ساتھ لیے ہوئے ہے، کیونکہ بالترتیب جسمانی سرگرمیاں اور تکھیلیں انسان کو جذبات پر قابو پانے اور ایک دوسرا سے مل کر رہنے کا سیاق سکھاتی ہیں۔ تعلیم الصحت مختلف تبریزوں کا تسلسل ہے جو مختلف افراد، کمیونٹی اور قوم کی صحت سے متعلق ان کے علم میں اضافہ کرتی ہے اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر سوسائٹی کی تکھیلی میں مددویتی ہے۔ جبکہ جسمانی تعلیم انسان کی مکمل شخصیت کی تحریر میں مددویتی ہے۔ گویا دونوں مفہوم معلومات اور علم میبا کرتی ہیں جس سے بہتر معاشرہ اور صحت مند قوم پر وان چڑھتے ہیں۔ تعلیم الصحت اور جسمانی تعلیم اپنے حلقة عمل اور خوبیوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی معاون ہیں۔ یعنی:

- 1۔ دونوں مکمل طور پر انسان کی فلاج چاہتی ہیں۔
- 2۔ دونوں ذاتی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے میں کوشش رہتی ہیں۔
- 3۔ دونوں جسمانی، سماجی، ہنچی، جذباتی اور روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔
- 4۔ دونوں ہی انسان کے باہمی تعلقات کو بڑھانے کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہیں۔
- 5۔ دونوں ہی موثر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔
- 6۔ دونوں خوشنگوار اور بھرپور زندگی پر کرنے کے موقع فراہم کرتی ہیں۔


اگرچہ تعلیم الصحت اور جسمانی تعلیم کا چوہلی و اکن کا ساتھ ہے پھر بھی دونوں کا عمل الگ ہے اور ان کا طریقہ تعلیم بھی جدا ہجہ اے۔



انسانی جسم اور اس کی کارکردگی

(Human Body & its Efficiency)

انسانی جسم قدرت کا بہترین اور عالمی المثال شاہکار ہے۔ ہر جاندار شے چھوٹے چھوٹے جاندار ذرات سے مل کر نہیں ہے جن کو ہم خلیے (Cells) کہتے ہیں۔ ماہرین سائنس کا خیال ہے کہ انسانی جسم کی ابتدائیتی سے ہوتی ہے۔



1. خلیہ (Cell)

یہ جاندار جسم کی اکائی کا نام ہے، یعنی جسم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا خانہ جس میں جاندار ماہو ہوتا ہے۔ دراصل ہر جاندار کا جسم اپے ہزار خلیوں سے تعمیر ہوتا ہے کہ ان کو خود ہیں کی مدد سے ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ جب بہت سے خلیے آپس میں مل جانتے ہیں تو عضلات ہن جاتے ہیں۔ خلیے مخصوص خوراک کی مدد سے نشوونما پاتے ہیں اور ہر خلیہ بے شمار چھوٹے خلیوں میں بٹ جاتا ہے۔ خلیوں کی بناوٹ، اشکال اور جنم ان کے افعال کی مناسبت سے مختلف ہوتی ہیں۔

2. خلوی بھلی (Cell Membrane)

یا ایک شفاف بھلی ہوتی ہے جس میں ماہو حیات لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

3. ماہو حیات یا پروٹوپلازم (Protoplasm)

بھلی کی جسم کا نیم حصہ ماہو ہوتا ہے جسے ماہو حیات (Protoplasm) کہا جاتا ہے۔ تمام جانداری ماہو کے بجے ہوئے ہوتے ہیں۔

4- مرکز خلیہ یا مرکز خلیہ (Nucleus):

ماہوں حیات سے نبہا زیادہ نہیں ذرہ، جو ماہوں حیات کے درمیان ایک خلیہ کی طرح نظر آتا ہے اسے جوہر حیات بھی کہتے ہیں۔ یہ خلیہ کا اہم ترین بڑو ہوتا ہے۔ کیونکہ خلیے میں جس قدرت بدیلیاں واقع ہوتی ہیں یا جو کام بھی خلیہ کرتا ہے۔ ان سب کو سمجھی مرکز کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیے میں ریشے اور ہوا کے بلیں بھی ہوتے ہیں۔

جسم کی ابتدائی ایک منفرد خلیے سے ہوتی ہے۔ جسے اٹا یا (Germ Cell) کہتے ہیں۔ یا ایک ز خلیے (Sperm) اور ایک ماہوں خلیے (Ovum) کے سمجھا ہونے سے بتاتے ہے۔ اسے "خلیوں کی ماں" بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ شروع میں زندگی کے تمام کام سرانجام دلتا ہے۔ پھر یہ قسم ہو کر اپنی تعداد بڑھاتی ہے اور اپنے جیسے کئی خلیے ہالیتا ہے۔ ابتداء میں خلیے ایک جیسا کام کرتے ہیں اور شکل و صورت میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ لیکن بعد میں اپنی ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے کام آپس میں باٹت لیتے ہیں، مثلاً خلیوں کا ایک گروہ اپنے ذمہ حرکت کا کام لے لیتا ہے۔ انہیں عضلاتی خلیے (Muscle Cells) کہتے ہیں۔

خلیوں کا دوسرا گروہ پیغام برسانی اور احکام جاری کرنے کے کام میں معروف ہو جاتا ہے۔ انہیں عصبی خلیے (Nerve Cells) کہتے ہیں۔ غرض مختلف کاموں کے لیے مختلف خلیے بن جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک گروہ میں تمام خلیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان ایک اسی قسم کے خلیوں کے گروہ کو بافت (Tissue) کہتے ہیں۔ یہ بافتیں ایک دوسرے کے ساتھ (Matrix) کے ذریعے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا ماہوہ ہے جسے خلیے خود بناتے ہیں۔ جب بہت سی بافتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ عضو (Organ) بن جاتے ہیں، مثلاً دل، گردے، بیکھپرے، غیرہ۔

ہر عضو انہا مخصوص کام کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے دوسرے اعضا کے تعادن سے ایک مشترک مقصد کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس طرح ان تمام اعضا کا مجموعی کام ایک نظام کھلاتا ہے۔ تمام نظام میں کر انسانی جسم بناتے ہیں، اگر تمام نظام اپنا اپنا کام صحیح کرتے رہیں تو انسان تک رسنا اور صحبت مندر ہتا ہے۔ انسانی جسم میں مندرجہ ذیل گیارہ نظام کام کرتے ہیں۔

1- نظام استخوان (Skeletal System):

ہمارے جسم میں 206 بڑیاں ہیں۔ ان کا کام اعضا کے ریس کی خلافت اور جسم کے مختلف اعضا کی حرکات میں مدد دینا ہے۔ جسم کی شکل و صورت اور شکل و شباهت بھی انہی کی بدولت قائم ہے۔

2- نظام عضلات (Muscular System):

اس میں جسم کے تمام گوشت والے حصے شامل ہیں۔ یہ انسانی جسم کے "مزدور" ہیں جن کے سکلنے اور پھیلنے سے جسم حرکت کرتا ہے۔ نیز یہ جسم کو خوبصورت اور سڑوں بناتے ہیں۔

3- نظام انتہام (Digestive System):

اس کا کام خواراک کو خضم کر کے جزو بدن بناتا ہے۔ جس سے جسم کو قوت اور تراہت میریا ہوتی ہے۔

4- نظامِ دورانی خون (Circulatory System)

اس نظام کے تحت خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے جو دل سے پہل کر امیزوں سے نہادیت حاصل کرتا ہے اور جسم کے تمام حصوں کو نہادیت پہنچا کر پھر دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے غیر خالص خون پہنچپڑوں میں سے صاف ہو کر جسم کے بھروسے میں پہنچتا ہے۔

5- نظام تنفس (Respiratory System)

اس نظام میں سانس لینا اور سانس خارج کرنا شامل ہے۔ سانس لینے میں ہوا پہنچپڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا میں سے "آسٹین" خون میں شامل ہو جاتی ہے اور سانس باہر نکلنے میں "کاربون ڈائی آسائیڈ" ناک کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔

6- نظامِ اعصاب (Nervous System)

یہ سب نظاموں کا حاکم اعلیٰ ہے۔ جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات حاصل کر کے ان کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے۔ ارادوی وغیرہ ارادی عضلات اسی کے تحت حرکت کرتے ہیں۔

7- حواسِ خمسہ کا نظام (Special Senses System)

اس میں حواسِ شم (آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد) کا نظام کام کرتا ہے۔ جن کے ذریعے ہمیں اپنے اور گرد کی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔

8- نظامِ انجذاب (Absorptive System)

یہ لفاظی (Lymphatic) غدوہ کا نظام ہے۔ ہضم شدہ خوراک خون میں شامل ہوتی ہے اور جسم کے مختلف اعضا خصوصاً چہوٹی آنزوں میں (VIII) نہادیت چذب کرتے ہیں۔

9- نظامِ اخراجِ فضلات (Excretory System)

اس نظام کے تحت ہمارے جسم کے فاسد اور بے کار مادے خارج ہوتے ہیں۔

10- بے نالی غدوہ کا نظام (Endocrine System)

یہ ان غدوہ اور گلیوں کا نظام ہے جن کی مخصوص رطوبتیں یعنی "ہارمون" (Hormones) انسانی نشونما پر اثر ذاتی ہیں اور ان سے اعضا تقویت حاصل کرتے ہیں۔

11- نظامِ افراشِ نسل (Reproductive System)

اس میں تو لید اور تناول کے اعضا اور گلیاں شامل ہیں جو افراشِ نسل میں مدد و میتے ہیں۔

نظام دواران خون


(Circulatory System)

اس نظام کے تحت انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ اس نظام میں مندرجہ ذیل اعضا کام کرتے ہیں:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1- شریانیں (Arteries) | 2- وریدیں (Veins) |
| 3- عروق شعريہ (Capillaries) | 4- دل (Heart) |

1- شریانیں (Arteries)

خون کی وہ نالیاں جو دل سے جسم اور بھیپھروں کی طرف خون کو لے جاتی ہیں شریانیں کہلاتی ہیں۔ یہ مضبوط اور پکھدار ہوتی ہیں۔ ان کی تین تھیں ہوتی ہیں۔ خون سے خالی ہونے پر بچک جاتی ہیں لیکن اپنی ٹکل اور گولائی قائم رکھتی ہیں، گوشت کی گہرائی میں ہوتی ہیں۔ سوائے بھیپھروں کی شریان (Pulmonary Artery) کے سب شریانوں میں صاف خون ہوتا ہے۔



2- وریدیں (Veins)

یہ خون کی وہ نالیاں ہیں جو خون کو دل کی طرف واپس لاتی ہیں۔ یہ بچک اور نازک ہوتی ہیں۔ ان کی بھی تین تھیں ہوتی ہیں۔ خون سے خالی ہونے پر بھی بچک جاتی ہیں۔ یہ جلد کی سطح کے نزدیک ہوتی ہیں، خون کو واپس جانے سے روکنے کے لئے ان میں یکساں فاسطے پر نئے نئے حصی نہادھکنے لیتی "والوز" (Valves) ہوتے ہیں۔ سوائے بھیپھروں کی وریدوں (Pulmonary Veins) کے سب وریدوں میں گندہ خون ہوتا ہے۔

3- عروق شعريہ (Capillaries)

یہ شریانوں کی نہایت ہی باریک شاخیں ہیں جو خوردنیں کی مدد سے دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی دیواریں اتنی تھی ہوتی ہیں کہ خوراک اور آسیں ہن ان میں سے گزر کر بافتوں میں پھیلی جاتی ہے اور بے کار مادے، ضائع شدہ بافتیں اور "کاربین" وائی آسائیں" اسی قسم کی نالیوں سے گزر کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں جو بعد میں وریدوں سے مل جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے شریانیں اور وریدیں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ چنانچہ باخت کے نیچے جو خون چکتا ہوا نظر آتا ہے وہ عروق شعريہ میں ہی دوڑ رہا ہوتا ہے۔

4- دل (Heart)

یہ ایک کوکھا مخزنی عضو ہے۔ جس میں ہر وقت خون موجود رہتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ یہ دمیری سے ساتوں پہلی کے پاس ہے اور سینے کے جوف (Thorax) کے اندر دونوں پیچھے والے درمیان اور قدرے ہائی جانب جھکا رہتا ہے۔ نعلے حصے کی نسبت اور پر کی جانب زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 220 سے 300 گرام اور عموماً اسکی جسامت انسان کی بندھی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ایک جھلی میں ہے خلاف دل (Serous Pericardium) کہتے ہیں، پٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس جھلی کی دو تینی ہیں۔ ان تینوں کے درمیان لیس دار ربوہ دل کی حرکت کو آسان ہاتھی ہے اور گز سے چھاتی ہے۔ دل یعنی سے اور پرک دھصوں میں ہٹا ہوا ہوتا ہے اور پھر دو حصے دو دو خانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور کے خانے اذن (Artium) کہلاتے ہیں اور نعلے خانے بطن (Ventricles) کہلاتے ہیں۔ ہر اذن اپنی جانب کے بطن سے ایک ڈھکنے یا ”والو“ کے ذریعے طاہوا ہے۔ دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیان کے ڈھکنے کو (Tricuspid Valve) یعنی تین پیسوں والا ڈھکنا کہتے ہیں۔ جب کہ دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیان میں دو پیسوں والا ”والو“ (Bicuspid / Mitral Valve) واقع ہے۔ اسی طرح دائیں بطن اور پیچھے والے کی شریان کے درمیان کے ڈھکنے کو (Semi-Lunar Valve) یعنی نصف چاند کی ٹکل کی تین پیسوں والا ”والو“ یا ہلماں ڈھکنا کہتے ہیں اور دائیں بطن اور شریان اعظم کے درمیانی ”والو“ کو اور کم ”والو“ (Aortic Valve) کہتے ہیں۔ یہ سب ڈھکنے یا ”والو“ خون کو ایک طرف تو جانے دیتے ہیں لیکن واپس آنے سے روکتے ہیں۔

دل کے خانوں میں خون کی گردش:

1- وریدا عظم بالائی (Superior Vena Cava)

یہ جسم کے اوپر کے حصوں سے کثیف خون لے کر دل کے دائیں اذن میں داخل ہوتی ہے۔

2- وریدا عظم زیریں (Inferior Vena Cava)

یہ جسم کے نعلے حصوں سے کثیف خون لے کر دل کے دائیں اذن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ کثیف خون دل کے دائیں اذن سے دائیں بطن میں چلا جاتا ہے۔

3- پیچھے والے کی شریان (Pulmonary Artery)

دل کے دائیں بطن سے کثیف خون کو پیچھے والے میں لے جاتی ہے۔ دل سے کل کرو دھصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک دائیں اور دوسری بائیں پیچھے والے میں جاتی ہے۔ پیچھے والے میں جا کر خون صاف ہوتا ہے۔

4- پیچھے والے کی وریدیں (Pulmonary Veins)

خون پیچھے والے میں صاف ہو کر چار وریدوں یعنی ”ملیری و نیز“ کے ذریعے دل کے دائیں اذن میں چلا جاتا ہے، پھر دل کے دائیں اذن سے خون دل کے دائیں بطن میں چلا جاتا ہے۔

5۔ شریانِ عظیم "اورٹی" (Aorta)

دل کے باہمیں بطن سے نکل کر شریانِ عظیم سارے جسم میں خون مبیا کرتی ہے۔
جسم میں خون مندرجہ ذیل طریقوں سے گردش کرتا ہے:

1۔ دورہِ عظیم (Systemic Circulation)

دل متواتر سکتا اور پھیلتا رہتا ہے، اس کے سکڑنے سے صاف شدہ خون شریانِ عظیم کی شاخوں اور بے شمار عروقی شریعے کے ذریعے بدن کے ہر حصے میں پہنچتا ہے۔ عروقی شریعے کے خون اور جسمانی بانفوں کے درمیان تفاوتی مادوں اور گیسوں کا باہمی چالوں ("اوسمیوس" Osmosis) کے ذریعے ہوتا ہے۔ عروقی شریعہ پھر اکٹھی ہو کر پہلے بڑی نالیوں (Venoles) میں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر آپس میں مل کر وریدوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر خون ان وریدوں سے وریدِ عظیم بالائی اور وریدِ عظیم زیریں کے ذریعے دل کے دائیں اذن میں چلا جاتا ہے۔

2۔ دورہِ اصغر (Pulmonary Circulation)

دل کے سکڑنے سے دل اور پھیپھدوں کے درمیان خون کی گردش ہوتی ہے۔ جب دل کا دایاں بطن سکڑتا ہے تو خون "پھیمری آفری" کے ذریعے پھیپھدوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آسکھن اس میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربین ڈائل آکسائیڈ اور فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور یہ صاف خون "پھیمری ویز" کے ذریعے دل کے باہمی اذن میں چلا جاتا ہے۔

3۔ دورہِ بابی (Portal Circulation)

شریانِ عظیم کی کچھ شاخیں جوفِ ٹائم کے اعضا مددہ، لبلہ، قلب، انتریوں وغیرہ کو خون پہنچاتی ہیں۔ یہ خون ان سے گزر کر زبریں وریدِ عظیم میں جانے کی جائے "پورٹل وین" (Portal Vein) کے ذریعے جگر میں پہنچتا ہے اور زائد شکر یعنی "گلائیکو جن" (Glycogen) کو یہاں جمع کر دیتا ہے جو بوقت ضرورت استعمال ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ خون شریانِ عظیم (Hepatic Vein) کے ذریعے زبریں وریدِ عظیم میں جاتا ہے اور وہاں سے سیدھا دل کے دائیں اذن میں چلا جاتا ہے۔

4۔ دورہ قلبی (Coronary Circulation)

اس میں شریانِ عظیم کی شاخ (Coronary Artery) اور اس کی شاخیں دل کو نہادیت سے بھر پور خون مبیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد خون واپس (Coronary Vein) کے ذریعے دل کے اذن راست میں چلا جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے کارڈیزی شریانوں میں خون چلانا بند ہو جائے تو دل ایک دم کام کرنا پچھڑ دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔

نظام تنفس

(Respiratory System)

نظام تنفس کے عمل سے تازہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور خون کو آسمجھ مبارکرنے کے بعد اس کے فاسد مادوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ کو پھیپھڑوں میں صورت کی صورت میں پھیپھڑوں سے باہر نکالتی ہے۔ اس نظام کے تحت ہی ناخالص خون پھیپھڑوں میں صاف ہو کر سرخ اور چکدار ہو جاتا ہے۔

تنفس کے دو عمل ہیں:

(الف) درآمد تنفس (Expiration) (ب) برآمد تنفس (Inspiration)

(الف) درآمد تنفس (Expiration)

اس کے دوران مدرج ذیل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں:

- پسلیوں کے درمیان عضلات کی تہہ سکرتی ہے۔ اس لیے یہ اوپر آٹھتی ہیں اور سینے کا خلا بڑھ جاتا ہے۔
- ”ڈایا فرام“ (Diaphragm) یا پردہ ٹکرم سکرتا ہے اور سینے کی طرف اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے باعث جوف سینہ فراخ ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں ان کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر سے تازہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔

(ب) برآمد تنفس (Expiration)

اس کے ذریعے مدرج ذیل تبدیلیاں ہوتی ہیں:

- پسلیوں کے درمیان عضلات کی تہہ سکرتی ہے۔ سینے تک ہڈی دب جاتی ہے۔
- ”ڈایا فرام“، ”ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ سینے کی طرف اس کا ابھار بڑھ جاتا ہے۔ جس کی بدلت جوف سینہ ٹکر ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کی ہواز یادہ دباؤ کی وجہ سے سانس کی نالی کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں عمل باری باری باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں اور ان سے عمل تنفس جاری رہتا ہے۔

اس عمل میں مدرج ذیل اعضا کام کرتے ہیں:

- ناک
 - ہوا کی نالی
 - حلق
 - سانس کی نالیاں
 - پھیپھڑے
 - آر صوت
 - مہنہ
 - سلیاں
 - سلیاں کی نالیاں
 - سلیاں کی نالیاں
 - سلیاں کی نالیاں
 - سلیاں کی نالیاں
- پردہ ٹکرم یا ”ڈایا فرام“ پسلیاں اور پسلیوں کے درمیانی عضلات وغیرہ۔

ناک (Nose):

ناک کے ذریعے سانس لینا نہایت ضروری ہے اور محنت کے لیے مفید بھی۔ اس کی اندر ورنی سلیک پر بار بار لحاب دار محلی ہوتی

ہے۔ اس کی رطوبت میں گردو غبار کے ذرات اور جراثیم وغیرہ ایک جاتے ہیں۔ ناک کے اندر بالوں کا بھی بھی فائدہ ہے۔ اس طرح ہوا صاف ہو کر پھر دوں کو جاتی ہے۔ ناک کا اندر ونی حصہ اپنی بھبھے ناٹ کی وجہ سے پیچیدہ اور اسما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندر ونی جملی میں خون کی نالیوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ بیہان سے گزر کر ہوا کا درجہ حرارت جسمانی درجہ حرارت کے مطابق ہوتا جاتا ہے اور پیچھے دوں کو نقصان بخیں پہنچتا۔

(Mouth) - ii

ناک کے ذریعے سانس لینے اور خارج کرنے کا عمل چاری رہتا ہے، اگر ناک میں کوئی تکلیف ہو جائے تو ناک کی فعالیت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ہم منہ کے ذریعے سانس لیتے اور خارج کرتے ہیں۔ میں نظر نکالو سے منہ کے ذریعے سانس لینے ڈرست نہیں ہے۔

(Pharynx) - iii

ایک قیف نما عضلاتی حصہ ہے، جس میں سات سوراخ گھلتے ہیں۔ دو ناک سے، دو کانوں سے، ایک منہ کا، ایک خوراک کا معدے میں جانے کے لیے اور ایک ہوا کی نالی کا۔

(Larynx) - iv

یہ تنکوٹ آنے سے، جو عضلات اور کری ہڈی کا بنا ہوا ہے۔ ہوا کی نالی کے اوپر والے سرے پر واقع ہے۔ یہ گھن ہوا کا راستہ ہی نہیں بلکہ اسے ہوا کا صندوق (Voice Box) بھی کہتے ہیں۔ یہ خوراک اور سانس کی مشترک گز رگا ہے۔ یہ دونوں عمل بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ جب خوراک کو لگا جاتا ہے تو اس کا ڈھکنا "اپی گلوس" (Epiglottis) ہوا کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے خوراک کا کوئی حصہ ہوا کی نالی میں نہیں جانے پاتا۔ سانس لینے کے دوران یہ ڈھکنا گھلارہتا ہے۔

(Treachea) - v

آئندہ صوت پیچے کی طرف ہوا کی نالی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نالی سینے کے جوف میں جا کر ریڑھ کے پانچیں مہرے کے سامنے دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر بیزی کے حرف "C" کی ٹھکل کے کری ہڈی کے ناکمل حلقة ہوتے ہیں جن کی تعداد 16 سے 28 ہوتی ہے۔ اس کے پیچے سے خوراک کی نالی گزرتی ہے۔ اس نالی کے اندر بھی لاحب دار جملی کا استر ہوتا ہے۔ جس پر نہایت ہی باریک پر (Cilia) ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت اپر کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تھوک اور گردو غبار کے ذروں وغیرہ کو دھکیل کر باہر کلانے رہتے ہیں۔


(Bronchii) - vi

سانس کی نالی پیچھے دوں کے درمیان پہنچ کر دھومنے میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک حصے کو برونکس (Bronchus) کہتے ہیں۔

برونکس کی باریک نالیوں کو ”برانکی اولز“ (Bronchioles) کہتے ہیں۔ ان نالیوں کی بہاؤ سانس کی نالیوں حصی ہوتی ہے۔ آخر میں یہ نالیاں نہایت ہی باریک خود بینی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن میں کری بڑی نہیں ہوتی۔ آگے جا کر یہ نالیاں پھیلوں کی شکل اختیار کر لجتی ہیں جن کے سروں پر ہوا کی تھیلیاں ہیں۔ یہ تھیلیاں یا ہوا کے خانے (Airsacs) صرف خود بینی کی مدد سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے ارد گرد ہر دو قبیلے کا جال بچا ہوتا ہے۔ اسی حصے میں گیسوں کا تادله ہوتا ہے، خون صاف اور چکدار ہو جاتا ہے۔

vii۔ پیغمبر دے (Lungs)

پیسانس لینے کے لیے جوف سینہ میں دل کے دونوں اطراف پلکے گالی رنگ کے اُٹھی اعضا ہیں۔ یہ ایک جملی (Pleura) میں لپٹتے ہوتے ہیں جس کی روخت پھیلتے اور سکنے میں انہیں مدد دیتی ہے۔ دونوں پیغمبر دے اور پر کی طرف ہوا کی نالی (Trachea) سے ملتے ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر والا کھون باریک نالیوں اور ہوا کی تھیلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تھیلیوں کے گرد ہر دو قبیلے کا جال بچا ہوتا ہے۔




پیغمبر دوں میں خون کیسے صاف ہوتا ہے:

پیغمبر دوں میں خون کی صفائی گیسوں کے لفڑ (Diffusion of Gases) کے اصول پر ہوتی ہے۔ جب باہر سے تازہ ہوا پیغمبر دوں میں داخل ہوتی ہے تو دبارہ نکلنے سے پہلے چند سینکڑے کے لیے ہوا کی تھیلیوں میں رکتی ہے۔ ہوا کی تھیلیوں کی دیواریں بہت ہی پتلی ہوتی ہیں۔ گیسوں کی تہذیلی کا عمل لفڑ (Osmosis) ان ہی پتلی دیواروں میں سے ہوتا ہے۔

- 1۔ ہوا کی آسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کے ملنے سے خون کا رنگ چکدار سرخ ہو جاتا ہے۔
- 2۔ خون سے ”کاربن ڈائی آسائیڈ“، آبی بخارات اور دیگر فاسد مادے الگ ہو کر ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہوا کی برآمد کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ اس طریقے سے جو غیر خالص خون پیغمبر دے کی شریان کے ذریعے پیغمبر دوں میں داخل ہوتا ہے اور صاف ہو کر ”آسیجن“ لے کر پیغمبر دوں کی وریدوں کے ذریعے واپس دل میں چلا جاتا ہے وہاں سے سارے جسم کا دورہ کر کے اس کو غذا ایت اور ”آسیجن“ بہم پہنچاتا ہے۔

ہوا کے اجزاء تکمیل مدد و جذبیل ہیں۔

نمبر شمار	ہوا کے اجزا	درا آمد تنفس	برآمد تنفس
-1	آسکین	21 فیصد	16 فیصد
-2	ناکیشہ، جن	79 فیصد	79 فیصد
-3	کاربن ڈائی آکسائیڈ	0.04 فیصد	4.04 فیصد
-4	آلی بخارات	جگہ اور موسم کے لحاظ سے مختلف	زیادہ سے زیادہ جو ساکتے ہیں
-5	خاکی ذرات	ایضا	بہت کم
-6	درجہ حرارت	ایضا	جسم کے درجہ حرارت کے برابر
	(جسم کی تقریباً 20 فیصد حرارت ہوا کو جسم کے درجہ حرارت پر لانے میں صرف ہو جاتی ہے)		



سانس کی رفتار:

سانس لینے کے معمول کے عمل میں ہر بار سانس کے باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس کے بعد سانس اندر لے جایا جاتا ہے۔ سکون کی حالت میں بالغ اور سندھرست آدمی اوسٹا ایک منٹ میں تقریباً دس سے بیس مرتبہ سانس لیتا ہے۔ سانس

لینے کی رفتار خواتین میں مردوں کی نسبت تھوڑی سی تیز ہوتی ہے۔ پچوں میں بڑوں کی نسبت سانس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ سانس کی رفتار کم یا زیادہ کرنے والا ضروری جزو، خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار ہے۔ یہ تیز ابی گیس سانس لینے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے مراتب تو تحریک دیتی ہے جو دماغ کے سب سے نعلے حصے (Medulla Oblongata) میں واقع ہے۔

ایک منٹ میں سانس لینے کی عمومی رفتار

نوزائیدہ پچھے	40 مرتبہ
12 ماہ کا پچھے	30 مرتبہ
2 سے 5 سال تک کا پچھے	24 مرتبہ
ہائی	10 سے 20 مرتبہ

viii۔ پردہ ٹکم یا "ڈایا فرام" پسلیاں اور پسلیوں کے درمیانی عضلات وغیرہ:

بھیپھروں کے ذریعے فضا سے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے جو چھاتی کے سریند خلا میں واقع ہیں۔ ان کو اور پر اور اطراف سے پسلیوں اور ان سے مسلک عضلات نے جبکہ نیچے کی جانب "ڈایا فرام" یا پردہ ٹکم نے گھبرا ہوا ہے۔ "ڈایا فرام" قوس نما مکمل میں ہے جس کا درمیانی حصہ "فیبر" (Fibre) اور اطرافی حصے مضبوط عضلات سے بنے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم ہوا کو اندر کی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی بالکل ہائیکل پپ کی طرح ہے۔ بھیپھروں میں ہوا کے دخول کے لیے ضروری ہے کہ چھاتی کے اندر وہی خلا کو وسیع کیا جائے تاکہ بھیپھروں میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے۔ یہ صرف پسلیوں اور "ڈایا فرام" میں حرکت کے باعث ہی ممکن ہے۔ جب پسلیوں سے مسلک کچھ مضبوط عضلات سکرتے ہیں تو یہ پسلیوں کو اور پر باہر کی جانب پھیلا دیتے ہیں۔ جس کی پدالات چھاتی کا اندر وہی خلا ہر طرف سے ہڑھ جاتا ہے اور اس لئے "ڈایا فرام" کا بنا ہوا درمیانی حصہ نیچے کی جانب کھینچ جاتا ہے اور اس کے کناروں سے مسلک ہے کھینچ جانے سے چھاتی کا خلا مزید ہڑھ جاتا ہے۔ یعنی چھاتی کے ہڑھے ہوئے اس خلا کی وجہ سے بھیپھروں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جس کے وجہ سے ہوا تیزی سے سانس کی نالی کے ذریعے بھیپھروں میں اس وقت تک داخل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بھیپھروں کے اندر ہوا کا دباؤ اور فھاتی ہوا کا دباؤ ایک برابر ہو جائیں۔ سانس باہر نکالنے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب پسلیوں سے مسلک عضلات اور ڈایا فرام ڈھیلے ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں تو چھاتی کا اندر وہی خلا کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہوا بھیپھروں میں سے باہر نکل جاتی ہے۔




قامت، قامتی نقص اور ان کی اصلاح

(Posture, Postural Defects & its Remedial Exercises)

قامت (Posture)

جسم کے مختلف حصوں کی ایک دوسرے سے مناسبت کو قامت کہتے ہیں۔ قامت درست رکھنے کے لیے، تمام عملیات کا ایک دوسرے پر انعام ہے۔ قامت کی درستی مخفی درست کھڑے ہونے میں ہی نہیں بلکہ بینخے، لینے اور چلنے میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی وہی کیفیت بھی قامت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ناخنگوار خبر سننے سے انسان پھر مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے کندھے بھک جاتے ہیں۔ اس کے برکس خوشخبری سننے سے انسان چاق و چوبیدہ ہو جاتا ہے۔ درست قامت اپنی شخصیت کی آئینہ دار ہے اور اس سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے نیز درست قامت سے جسم کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔



قامت کے نقص (Posture Defects)

قامتی نقص عموماً اولیٰ عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بچوں کی بُدیاں چونکہ نرم ہوتی ہیں اور وہ کھڑے ہونے، چلنے پھرنے اور بینخے کے صحیح طریقوں سے آشنا نہیں ہوتے، لہذا ان کے اعضا ملٹا اثرات کو جلد قبول کر لیتے ہیں اور اگر انہیں بروقت درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ مستقل طور پر قامتی نقص کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ قامت میں عموماً مندرجہ ذیل نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔

گول کر (Kyphosis)

سینہ اندر کو خضس جاتا ہے اور زیر ہڈی کی بڈی میں گرون سے لے کر چھافی کے حصے تک نمایاں خم پڑ جاتا ہے۔ کندھے اور سر آگے کو جھک جاتے ہیں۔ جسم کا بوجھ پاؤں کے پھوپھوں پر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ یا ہڑی اور پٹپٹ پر رابر قسم ہونا چاہیے۔ بوجھ کی یہ غلط قسم پاؤں کے خضس کا باعث بنتی ہے۔

وجوہات (Causes)



- 1 - سُمی یا بھری کمزوری
 - 2 - بیماری
 - 3 - عصیانات کی کمزوری
 - 4 - بیدائشی
- ایسا بچہ جس کی بیجانی کمزور ہے، سر کو سامنے جھکا کر دیکھتے اور کتاب کے اوپر جھک کر پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا سر کندھوں کی سیدھے سے آگے گل آتا ہے۔ اس طرح ساعت کمزور ہونے کی صورت میں بھی وہ دوسرے کی بات سننے کی غرض سے گرون کو آگے نکال لیتا ہے اور ایسا کرنے سے اسکی قامت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔
- سکول میں بچوں کی نشستیں اکثر غیر موزوں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کرسی یا نیچے کی اونچائی میرز کی نسبت زیادہ ہو تو پچھے کو جھک کر لکھنا یا پڑھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس مشق سے پچھے کی کمر میں خم پڑنا

شروع ہو جاتا ہے اور غیر تو جی اور بر وقت اصلاح نہ کرنے کی صورت میں کبھے بکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طبقے میں ان مخصوص بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے اس نتیجہ یا والدین کا ہوتا ہے جو پچھے کی سخت اور سُمی نشوونما کی نسبت سریعیت اور اگر یوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہر حال اگر بر وقت توجہ دی جائے تو اس قائمی نقص سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔

تجھے لباس بھی بعض صورتوں میں بچوں کی قامت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً کارروائی قریض پہننے سے سرکت محدود ہو جاتی ہے اور پچھے سر کو غلط انداز میں رکھتا ہے۔ اس طرح نوبی سر کے پچھلے حصے پر کھکھلے سے بھی اس قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے۔

پچھے کو بعض اوقات کوئی ایسی بیماری لائق ہو جاتی ہے جس کا اثر بر اور راست پذیوں پر پڑتا ہے اور اگر بیماری سے سخت یا ب ہونے کے فوراً بعد احتیاط نہ برقراری جائے تو زیر ہڈی کی بڈی میں نمایاں خم پڑ جاتا ہے۔

علاج (Treatment)

- 1- رینہ کی ہڈی کا کھچاؤ۔
- 2- گندھے کے جوڑ کی کمل حرکت۔
- 3- دھنے ہوئے سینے کی اصلاح کے لیے بچوں کو گہر اسنس دلانے کے لیے اسے بدم کرنا۔
- 4- کمر کے ترددی عضلات کو مضبوط بانا۔

اصلاحی ورزشیں (Remedial Exercises)

- 1- پیٹ کے بل لیٹ کر سینا اور پوچھار میں باقی جسم زمین کے ساتھ لگا رہنے دیں۔



گول کر کے لیے اصلاحی ورزش نمبر 1

- 2- پیٹ کے بل لیٹ کر بازوں جم کے ساتھ رکھتے ہوئے سینے کو زمین سے اور پوچھائیے۔



- 3- پیٹ کے بل لیٹ کر بازوں مانے سر کے اور سامنے کھڑے ہوئے ساتھی کی طرف گیند پھینکئے اور واپس پکڑئے۔



4۔ مہم رفتار سے دوڑتے ہوئے ہوائیں آچل کر پا زداو پر کو اٹھاتے ہوئے کمر پیچے کو جلائے۔



5۔ پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جائیے۔ بازو پہلو کو پھیلاتے ہوئے زمین سے اٹھائیے۔



خالی کمر : (Lordosis)

کمر کے نچلے حصے میں سامنے کو نمایاں فرم آ جاتا ہے۔ جسمانی توازن قائم رکھنے کی غرض سے ریڑھ کے نچلے حصے کے عضلات سکرے رہتے ہیں اور اس بنا پر عضلات میں درد رہتا ہے، کمر کا بالائی حصہ اندر کو بھک جاتا ہے۔ پیٹ کے عضلات اسی طبقے پر جاتے ہیں، معدہ اور آننسیں بیچھے کو ٹک جانے کی وجہ سے پیٹ آگے کو بڑھ جاتا ہے۔ ان اعضا کے سرکاؤ سے عام محنت پر بہت زدے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا لقص سانس لینے میں وقت ہے۔

وجہات : (Causes)

- 1۔ پیٹ کے عضلات کا کمزور ہونا۔
 - 2۔ دریک بھاری وزن سامنے پکڑے ہوئے رہنا۔
 - 3۔ اوپری ایڑی کا جوتا اکٹھ پہنچ رکھنا۔
 - 4۔ حد احتمال سے زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا۔
- اس لقص کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے عضلات لمبے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابل کو لمبے کو جھکانے

وائے عضلات نبہتا مخفیوں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ریڑھ کے نچلے حصے کے لیے عضلات تو ازان قائم رکھنے کے لیے کمر کے نمایاں خم کیسا تھا مطابقت پیدا کرنے کے لیے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ لہذا وہ تحفہ جاتے ہیں اور نبہتا کمر کے نچلے حصے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور پیٹ کے مقابل عضلات بے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیٹ سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور کمر کے نچلے حصے کے بھیجنی جانب کے عضلات چھوٹے اور مخفیوں ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس حصے میں نمایاں خم پڑ جاتا ہے۔ ۱

علانج (Treatment)

- 1- پیٹ کے عضلات سکیز کر مخفیوں کرنا۔
- 2- عادات کی تصحیح۔
- 3- ریڑھ اور گولہے کو جھکانے والے عضلات کو لبا کرنا۔

اصلاحی ورزشیں (Remedial Exercises)

- 1- پینچے کے مل زمین پر یت کر گھنٹے اکٹھے کیجئے۔ آہست آہست انٹھے اور پھرا یتے یت جائیے کہ کمر پوری طرح سے زمین کے ساتھ لگ جائے۔ عمل کنی بار کریں۔
- 2- پینچے کے مل یت کر گھنٹے انٹھیے۔ گھنٹے دونوں ہاتھوں سے تمام کر چھاتی کی طرف دبائیے اور پھر کچلی حالت میں واپس آجائیے۔ عمل بار بار دہراویے۔
- 3- پینچے کے مل یت کر گھنٹوں کو پاری باری 90 درجے کے زاویے تک انٹھیے اور پھر نیچے لے جائیے۔ پھر دونوں کو انٹھا اسی طرح اوپر انٹھیے۔ عمل کنی بار دہراویے۔
- 4- سانس لیتے کی ورزش کیجئے تاکہ پیٹ کے پہلو کے عضلات خام طور پر متاثر ہوں۔
- 5- زمین پر بیٹھے ہوئے سامنے ناٹکیں پھیلا کر ہاتھوں سے پیچوں کو پھوٹو۔

ناہموار کندھے (Scoliosis):



ریڑھ کی بڈیوں کا انگریزی کے حرف "سی" (C) کی تکلیف اختیار کرتا۔ یہ جھکاؤ بعض اوقات اور پہنچوں ہاتھوں حصوں میں پیدا ہو جاتا ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جھکاؤ اکثر یک طرف ہوتا ہے کیونکہ ان میں اکثر ہر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دو یہیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ دو یہیں ہاتھ سے پانی کی بالائی انٹھاتے ہوئے آدمی عام طور پر وزن برداز کرنے کے لیے اپنا بہایاں بازو اور پہنچاتا ہے اور اس طرح اوپر انٹھے ہوئے دو یہیں بازو کا وزن ریڑھ کی بڈیوں کو قدر سے مخالف سمت میں تکلیف دیتا ہے۔



نامہوار کندھے

وجہات (Causes)

- 1- ایک ناگہ چھوٹی ہونا۔
- 2- کرسی پر غلط انداز میں بیٹھنا۔
- 3- نشتوں کا غیر موزوں ہوتا یعنی ڈیک یا یمیک اور چھالی بچے کے قدم کے مطابق نہ ہونا۔
- 4- ایک طرف بوجھاٹھے کی عادت قائمی عضلات کے آپس میں فیر متوازن ہونے سے پیدا ہوتی ہے جبکہ ریڑھ کے لئے مدب عضلات متقابل عضلات کی نسبت کمزور پڑ جاتے ہیں۔

اصلاحی ورزشیں (Remedial Exercises):

- 1- "بار" سے لکھنا۔
- 2- ہر قسم کی لٹکنے والی ورزشیں جن سے ریڑھ کی بیڈی سیدھی ہو جائے۔
- 3- بیوائی کی خاص طور پر "بریست سڑک" (Breast Stroke) بہت مفید ہے۔
- 4- اس صورت میں جبکہ بایان کندھا دوسرے کی نسبت اونچا ہو تو "وال بار" (Wall Bars) سے اس طرح غیر مساوی لکھنا کر دیاں باتحہ ہائی میں کی نسبت اونچی "بار" کو کپڑے۔
- 5- جسم کو لبے سے لمبا کرنا اور اوپر کی جانب کھینچنا۔ دراصل ایک شخص خود ہی اپنے کندھوں اور بازوں کو مختلف انداز میں رکھ کر اس تقصی کو دور کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر یہ تقصی باسیں طرف ہے تو اس طرف کے عضلات کو سکیز نے کی مسلسل مشق سے ذور ہو سکتا ہے تو وہ ایسی ہی ورزش کا اختیار کرے۔

چھپے پاؤں (Flat Feet):



پاؤں میں 26 بندیوں کے ساتھ بہت سے رباط فلک میں جن کی بدولت انسان اپنا وزن بخوبی اٹھائے پھرتا ہے۔ محاب کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے وقت، دھنچے کو سہ کر جذب کرتی ہے۔ محاب کو برقرار رکھنے کے لیے پچھے کو سکیزتے والے لبے عضلات، پذلی کے عضلات اور گلوبے کے عضلات مدد میتے ہیں، اگر پاؤں کے دہانہ پر وزن غلط تقطیع ہو تو محاب گرجاتی ہے اور پاؤں چھپا ہو جاتا ہے۔

وجہات (Causes)


- 1. نگ کھوتا پہننا۔
- 2. دریک کھرے رہ کر کام کرنا۔
- 3. بخاری جسم ہونا۔
- 4. ورزش نہ کرنا۔

اصلاحی ورزشیں (Remedial Exercises)

- 1. پاؤں کے تکوؤں کو جوڑ کر بیٹھوں اور اپنے یوں کو ملاستہ ہوئے آپس میں دبانتا۔



- 2. کپڑے کے گیند کو ایک پنج سے انھا کر دوسرے پنج سے پکڑنا۔
- 3. کرسی پر بیٹھ کر پاؤں کی انگلیوں سے زمین پر سے کاٹ کی گولیاں یا اسکی ہی کوئی اور چیز انھا نا۔



- 4. ڈھلوان سطح پر چلتا۔
- 5. بیٹھوں کے مل بیٹھ کر بیچپہ اور سامنے گوئا۔
- 6. بیٹھوں کے مل چلتا۔



ابتدائی طبی امداد

(First Aid)

: (Sports Injuries) کسرتی ضریبیں

جسمانی کھیلوں کے مقابلوں میں کبھی بھی زیادہ چوت لگ جاتی ہے۔ یہ چوتیں درس گاہ، گھر، محلہ، کلب، کھیل کے میدان یا کہیں بھی لگ سکتی ہیں۔ اس لیے کھیلنے اور کھیلانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹی بڑی چوتیوں کی نوعیت سے واقف ہوں اور چوت کو خطرناک صورت حال اختیار کرنے سے بچاسکیں۔

کئی مقامات پر کھیل مغلظہ طور پر کھیلے جاتے ہیں۔ سمجھیدہ اور ذہن دار افراد اپنی تنگرائی میں کھیلوں کے مقابلے کرتے ہیں۔ ان افراد کو ہر قسم کی ضربوں سے آشنا ہوتا چاہیے، تاکہ معمولی چوت ناالبیت کی ہاپر خطرناک نہ بن جائے، اگر خون بہہ رہا ہو تو سب سے پہلے خون بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی بڑی ٹوٹ گئی ہو تو جی ای لوچ اسے جبکہ سے بچانا چاہیے۔ مریض کے رُخی حصوں کو سہارا دے کر آرام دہ حالت میں لانا یا جائے۔ اس کے علاوہ کھیل شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ان بالتوں کو مدد نظر رکھا جائے تو چوت لگنے کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔ اکثر کھیل لگاتار اور مسلسل مشق کے متاثری ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ:

- 1. کھیل کی جگہ محفوظ ہو۔
 - 2. استعمال کرنے والے آلات اور سامان بالکل درست حالت میں ہوں۔
 - 3. کھلاڑی کی تمامی حالت صحیح اور وزن تھیک ہو۔
 - 4. کھلاڑی نفسیاتی لحاظ سے پہلے سکون ہو۔
 - 5. سخت مشقت کی کھیلوں میں حصہ لینے سے پہلے کھلاڑی کی تیاری تکمیل ہو۔
- آپ کتنی ہی احتیاطی تداہیر اپنائیں پھر بھی کھیل کی مشق یا مقابلے کے دوران جسم کی مندرجہ ذیل چھ قسم کی اندر وہی باقتوں (Tissues) میں چوت لگنے کا اکثر امکان ہوتا ہے، خلی

- 1. عضلات (Muscles) - 2. رباط (Tendons) - 3. ہڈیاں (Bones)
- 4. جوڑ میخ کر کری بڑی (Joints includin cartilage) - 5. جوڑوں کے بندگیں (Ligaments) - 6. عضلات کی بندگی یا "فیشا" (Fascia)

ساتوں جسم کی بافت، جلد (Skin) ہے جسے یہ ورنی طور پر چوت لگتی ہے۔ جلد کی چوت کے علاوہ باقی تمام چوتیں نظر نہیں آتیں۔ اس لیے یہ تناکانی مشکل ہوتا ہے کہ چوت کس بافت کو لگتی ہے۔ مثال کے طور پر نخن، گھٹنے، کوبے، کہنی یا کندھے کی چوت کی بنا پر اگر نہ ہو نے یا حرکت دینے میں شدید درد محسوس ہوتا یہ چوت جزو میں، اس کے بعد صحن میں یا کر کری کی بندھی میں ہو سکتی ہے۔ بندھی کی چوت سب چوتوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ اس لیے نوٹی ہوئی بندھی کو بہلاتا یا چھوٹا انجینئری تکمیل دہ ہوتا ہے۔

نرم ہاتھوں کی چوتیں "سافت کارٹیز" (Soft Tissues Injuries) یا دوسری کی ہوتی ہیں۔ پہلی چوت ہونے کی وجہ سے (Traumatic) اور دوسری لگاتار کام کرنے کی زیادتی کی وجہ سے (Over use) اور یہ دو ہی طرح سے لگتی ہیں۔ یعنی کسی اندر وہی (جو کھلاڑی کی ذات تک محدود ہو) یا یہ ورنی عوامل (جس میں باہر کے عناصر بھی شامل ہوں) کی بنا پر، مثلاً پہلی چوت کی چوت لگنے میں کھیلتے ہوئے اچانک کسی عھٹے کا کھٹج جانا اور اس کے ریٹھوں کا ٹوٹ جانا (اندر وہی) جب کھیل کے دوران گرنے سے پہلی کی بندھی کا ٹوٹ جانا (یہ وہی)۔ اس طرح دوسری چوت کی چوت میں لہی دوزوں کے دوران کھلاڑی کی ایڑی کی رباطیا "اچلہنڈن" (Achilles Tendon) کے ریٹھوں کا ٹوٹ جانا (اندر وہی) یا اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جانا (یہ وہی)۔

بہت ساری چوتیں بھی علاج و گھباداشت کے بغیر خود بخود تحریک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان میں بہت سی ایسی بھی ہیں کہ اگر ان کی مناسب گھباداشت نہ کی جائے تو کھلاڑی کے کھیل میں حص لینے کے امکانات بیش کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ وردہ چوت سے وابستہ ہے۔ قدرت کا دروکی بدولت آپ سے مخاطب ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جب درد بہت شدید ہو تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی آواز سنو۔ زیرِ مدد میں پچھتا ناپڑے گا۔ چوت چاہے جلد کے اوپر ہو یا اس کے پیچے۔ اس میں پہنپ کا پڑنا، لفافی غدووں میں سوزش اور بخار کا اکٹھ ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی مناسب گھباداشت نہ کریں تو بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک چوت کے مرحلے کی درجہ بندی اندر وہی خون کے بہنے کی بنا پر کی جاتی ہے۔

1- ابتدائی مرحلہ (Acute Stage):

یہ مرحلہ چوت لگنے کے وقت سے لے کر خون کے بہنے بند ہونے تک رہتا ہے۔ اس مرحلے کا وقت 24 گھنٹے تک ہوتا ہے، اگر مناسب تہ ابھر اپنائی جائیں تو اس وقت میں خاطر خواہ کی ہو سکتی ہے۔

2- درمیانی مرحلہ (Middle Stage):

اس میں خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن چوت میں دوبارہ خون بہنے کا امکان رہتا ہے۔ اس مرحلے کا وقت 24 سے لے کر 48 گھنٹے تک ہوتا ہے، اگر مناسب تہ ابھر اپنائی جائیں تو چوت تحریک ہونے کے ابتدائی مرحلے میں جلد داخل ہو سکتی ہے۔

3- آخری مرحلہ (Final Stage):

یہ مرحلہ خون کے مکمل بند ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اس کے دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس مرحلے کے دوران چوت کے تحریک ہونے کا عمل نرم ہاتھوں "سافت سکارٹیز" (Soft Scar Tissues) کے ذریعے آہستہ شروع ہوتا ہے۔

چوت کے جلدی تھیک ہونے میں مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

-1. چوت کی شدت:

شدید پر جو نئی معمولی چوتوں کے مقابلہ میں زیادہ دری سے تھیک ہوتی ہیں۔

-2. فوری گھمہ داشت:

باناتا خیر اور ابتدائی طبعی امداد لٹھنے کی صورت میں چوت کے تھیک ہونے کے وقت عرصہ میں کمی ہو جاتی ہے۔

-3. علاج کا مناسب طریقہ کار:

مناسب، صحیح اور متواری علاج سے چوت جلد تھیک ہو جاتی ہے۔

-4. انفرادی فرق، تو جوان بچوں کو لکھنے والی پر جو نئی بڑوں کی نسبت جلد تھیک ہو جاتی ہیں۔

کھیلوں میں لکھنے والی سب سے زیادہ پر جو نئی زرم بافتوں سے وابستہ پر جو نئی ہوتی ہیں۔ ان میں عضلات (Muscles)، رباط (Tendons)، جزوؤں کے بندھن (Ligaments) کے علاوہ اکثر اوقات خون کی ہالیاں اور عصبی ریشے کا بھی زخمی ہونا شامل ہوتا ہے۔ کھیلوں کے دوران زیادہ لکھنے والی چوتوں میں خراش آنا، جلد کا کٹ جانا، عضلات کا کھچاؤ اور موقع آنا بہت عام ہیں۔ کھیل سے وابستہ چوتوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

i. شدید پر جو نئی (Chronic Injuries) ii. مزکن پر جو نئی (Acute Injuries)

iii. شدید پر جو نئی (Acute Injuries)

شدید چوت میں سخت مندرجہ بافتیں (Tissues) انجامی کھچاؤ کے تحت جب اپنی برداشت کی حد عبور کر جاتی ہیں تو ان کی قدرتی حیاتیاتی بناوت متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی چوت لکھنے کی زیادہ تر وچا کنک اور بے پناہ دباؤ کے تحت غلط انداز میں حرکت پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب ”فاست باؤل“ لیندہ چیختے وقت آخری قدم پر پھسل جائے تو اس کے سخن میں موقع آ جاتی ہے۔

iv. مزکن پر جوت (Chronic Injuries)

اگر دباؤ کی شدت ہافتھوں کی حد برداشت سے کچھ کم ہو تو چوت نئیں لگتی لیکن جب متاثرہ حصہ بار بار اس طرح کے دباؤ کی شدت کو برداشت کرنے میں ناکام ہو جائے تو یہ مزکن پر جوت بن جاتی ہے۔ اس طرح کی چوت اکثر اوقات اسی مشق سے وابط ہوتی ہے جس میں ایک ہی عمل کا بار بار اعادہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ”اٹھلیٹس“ (Athletes) یا ”گاف“ کے کھلاڑیوں اور ”بیٹسمن“ (Batsman) کی کلاسیوں میں ”سیز یس فریکٹ“ پیدا ہونا بہت عام ہے۔
ہر ایک چوت کی درجہ بندی پیچھے دیے ہوئے طریقہ سے کی جاتی ہے۔

(الف) بکا کناؤ (Mild Tear)

(ب) دریانی کناؤ (Moderate Tear)

(ج) شدید کٹاؤ (Severe Tear)

(د) آولیشن (Avulsion) رباط یا جوڑ کے بندھن کا پتی کوتور کر لیجھد ہو جاتا۔
گھنٹے کے بندھن کی چوت کی مختلف مانیں



جوڑ (Joint):

دو یا زیادہ ہڈیوں کے درمیان اسکی جگہ کو جوڑ سمجھتے ہیں جہاں پر یہ ہڈیاں ایک دوسری کی نسبت دروازے کے قبضہ کی مانند حرکت کریں۔ ان ہڈیوں کے سروں پر کر کری یا مرکنی ہڈی کی سفید اور چمک دار تہہ چڑھی ہوتی ہے۔ جس میں نہ تو کوئی خون کی نالی اور نہ ہی عصبی نس ہے، اگر کسی وجہ سے یہ کر کری ہڈی نوٹ جائے یا اس کا چھوٹا سکڑا نوٹ ریخجد ہو جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اگا تار گز کھانے سے یہ حصہ جاتا ہے اور اس جوڑ میں حرکت اختیالی تکلیف دہن جاتی ہے کیونکہ ان ہڈیوں کے سروں پر کر کری ہڈی کا خانقہ غاف نہیں رہتا اور اس خانقہ غاف سے میرزا حصے میں بہت سی عصبی نیس ہوتی ہیں۔



جوڑ کے بندھن (Ligaments):


یہ کام بہت سی مضبوط ریشوں پر مشتمل ایسے ہو رہے ہیں جو جوڑ کی ہڈیوں کے اختتامی سروں سے مسلک ہو کر جوڑ کو تکمیل دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام جوڑ میں حرکت کے دوران اس کی ہڈیوں کو آپس میں جوڑ سے رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ جوڑوں کے بندھن اپنی مسلک ہڈیوں کو اس طرح مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں کہاں میں بہت سی کم حرکت پیدا ہو سکے، مثال کے طور پر یہ ہکی ہڈی کے ٹھہرے جگہ کچھ

جڑوں کے بندھن کافی پچدار ہوتے ہیں۔ جس کی بدولت انکا دائرہ حرکت وسیع ہوتا ہے۔ خلا بازوؤں اور ٹانگوں کے جڑ (کلائی، کینی، کندھا، نخنا، گھٹنا اور کوبے کے جڑ)۔


موج

اگر کسی جڑ کے بندھن یا کسی عضلے کے بلا (Tendon) کے کچھ یہ شٹٹ جائی تو اسے مون کہتے ہیں۔ عالمیات میں حکم خود بکار ریوٹ نہ بندھن یا براط میں نئے خلیے پیدا کرے ایں تو اسے ریشوں کو دوبارہ جڑو دیا ہے۔ لیکن اگر کسی بندھن یا براط کے تمام کے تمام ریشے نوٹ جائیں اور وہ 2 حصوں میں بٹ جائے تو اسے "سرجی" (Surgery) کے ذریعے دوبارہ جڑو نا ضروری ہوتا ہے۔ بندھن کی چوٹ کی صورت میں اسے مزید تھمان سے پچانے کے لیے مذکورہ جڑو پر فوری طور پر پینی پاندھ کر غیر حرکت پر یہ بنا دیں اور فوری طور پر "RICES" کے طریقے سے ملاں کیجئے۔ کبھی بھی چوت زدہ جڑو کو دریش یا حرکت نہ دیں۔

گھٹنے کے بندھن کی چوٹ کی مختلف حالتیں



جھٹ کی جوڑ کی مختلف ماحصلیں



گھٹنے اور نخنے کے جڑو کی موج کے مختلف درجوں کی اقسام:

(الف) موج کے پہلے درجے کی تشخیص کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات کھلاڑی کو چوٹ لگنے کا پہا اس وقت تک نہیں چلا جب تک کہ اس کا جسم ٹھندا (Cool Down) نہیں ہو جاتا اور پھر 24 گھنٹوں کے دوران متاثرہ جگہ کھنکتی ہے نخنے یا گھٹنے کو میزی تھا کرنے اور موڑنے کی صورت میں درد ہوتا ہے۔

(ب) دوسرے درجے کی موقع آنے کے وقت کھلاڑی تاؤ جھوس کرتا ہے اور جو زکاہ بندھن (Ligament) کچھ زیادہ ہی کچھ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے پکھر یعنی ثوٹ جاتے ہیں۔ کھلاڑی درود کے باوجود بھی انہر کھل مکمل کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس درجہ کی چوٹ میں نخایا گخنا مسکم رہتا ہے۔

(ج) تیسرا درجہ کی موقع کی صورت میں بہت شدید درود کے علاوہ اس حصے کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور کھلاڑی مجبوراً کھیل چاری ہیں رکھ سکتا ہے۔

(د) کھیلوں میں چوتھے درجے کی چوٹ بہت ہی کم گفتگی ہے۔ یہ عموماً کھلاڑیوں کو صرف اس وقت ہی ملتی ہے جب وہ کسی بہت بڑی مزاحمت کے خلاف ٹھیل پیرا ہوں اور ان کا کوئی عضواً جسمی شدت سے سکر جائے۔ یہ نو عمر کھلاڑیوں میں زیادہ عام ہے۔ کیونکہ ان کے عضلات کی طاقت ان سے مسلک ہڈیوں سے جزئے ہوئے حصوں کی طاقت کی نسبت سے بڑھ جاتی ہے جو اکثر بڑی کر رہا ہے کی "آ لیشن" کا موجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایزی کی بڑی کے رہا یا "انکلور ٹھیلن" کی صورت میں اس سے مسلک عضله کا درمیانی حصہ (Belly of the Muscles) شدت سے سکر جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس سے مسلک بڑی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹھیکنے کے جوڑوں کے بندھن ان سے مسلک ہڈیوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ان پر بہت زیادہ دباؤ آجائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک کر مسلک بڑی کا کچھ حصہ توڑ کر علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اس بڑی کو واپس اس کی اصلی جگہ پر رکھ کر دبادیا جاتا ہے اور اسے ٹھیک ہونے کے لیے مناسب وقت درکار ہوتا ہے۔ توہنی ہوئی بڑی جب ٹھیک طور پر جزا یا سیست ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جوڑ کے بندھن کی چوٹ میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیکنے کی شدید موقع کی نسبت اس کی بڑی کا ثوٹ جانا کہیں بہتر ہے۔ "ایک دفعہ کی موقع ہمیشہ کی موقع رہتی ہے"۔

عضلات (Muscles):

"مسل" (Muscle) یا عضله کی اصطلاح لاطینی زبان کے ایک ایسے لفظ سے لی گئی ہے جس کے انویں معنی چوبہ (Mouse) ہے۔ چوبے کی طرح عضله کا جسم ہے اور دم بھی ہے۔ یہ "ٹنڈن" (Tendon) یا رہاٹ کہتے ہیں جو اکثر اوقات بڑی سے جزے ہوئے ہوتے ہیں۔ عضلات ایسے کل یا "موٹرز" (Motors) ہیں جن کی بدولت ہی جسم کے ہر اعضا میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں استعمال میں لائے بغیر نہ تو آپ بول سکتے ہیں نہ سانس لے سکتے ہیں اور نہ ہی آنکھ جھپکا سکتے ہیں۔ جسم کے تمام عضلات ایک ای طرح سے حرکت پیدا کرتے ہیں۔ یہ لمبا ہی کے زمانہ چھوٹا ہوتے پر اپنے رہاٹ یا دسرے مسلک حصوں کو کمپتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بازو کے اوپر والے حصے کے سامنے کے عضله کو کمپیرا جاتا ہے تو بازو کا اگلا حصہ جسم کے سامنے کی جانب آ جاتا ہے۔


عہلات کا ذکر (Muscles Soreness)

کہ بے باہے ہر شخص کے جسم کے کسی مخصوص حصے کے عہلات ذکر ہیں۔ اکثر اوقات زیادہ سخت و مشقتوں پر اور روزش کرنے کے 8 یا 24 گھنٹوں کے دوران عہلات ذکر نہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ تکلیف کسی مخصوص حصہ تک محدود ہو تو یہ اسی حصے کے عہلات کو ضعف و پنځے کی نشانی ہے، تاہم عہلات کا ذکر کتنا بھیٹ پڑت کی حالت نہیں ہوتا۔ اگر عہلات میں درد کسی خاص مقام پر نہ ہو رہا ہو بلکہ پورے حصے میں ہو تو یہ عہلات کے روشن میں سوچن کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو عہلات کے بار بار سکلنے کے عمل کے ذریانہ پنځے جاتے ہیں۔ عہلات کے ذکر کھنکی سب سے اہم وجہ بھی ہوتی ہے۔ جس دن آپ کے عہلات ذکر ہے ہوں تو آپ کو بلکہ فتار سے ملکی پہنچی ورزش کرنی چاہیے۔ اس سے اگلے دن آپ بہت بہتر ہو سوں کریں گے اور زیادہ شدت سے ورزش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عہلات کے ذکر کھنکے کا کوئی طبقی طلاح نہیں۔ بہت سے کھلاڑی ماش کرنے کی مرہم سے ماش کرتے ہیں۔ جس کے بعد وہ درد میں افاقہ ہو سوں کرتے ہیں۔ دراصل ان ادویہ میں ایسے اجزا ہوتے ہیں جن میں درد کم کرنے کی خاصیت ہوتی ہے۔ لیکن وہ چوت کے نیک ہونے کے عمل میں کسی قسم کی بہتری پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کتنے ہی صحت مند اور جسمانی لحاظ سے فٹ (Physically Fit) کیوں نہ ہوں۔ جب بھی آپ اپنے ایسے عہلات کو زیر استعمال نہیں جو زیادہ استعمال نہیں ہوتے یا ان سے ایسا کام لیا جائے ہے کرنے کے وہ عادی نہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد ذکر نہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا کھلاڑی جو پہنچتے کئی سالوں سے روزانہ لبے فاصلے کی وزن دوڑتا ہے۔ لیکن اگر اسے گھر میں رنگ و رونگ یا سقیدی کرنے پر لاگدیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد اس کے بازو ذکر نہ شروع ہو جائیں گے اور وہ انہیں اور بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ کیونکہ اس کے بازوؤں کے عہلات اس طرح کا کام کرنے کے عادی نہ تھے۔

عہلاتی کھچاؤ (Muscle Strain)

یہ بھیلوں کے ذریانہ سب سے زیادہ لگنے والی چوت ہے اس کے لیے انگریزی میں ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی "میل پل" (Muscle Pull)۔ عہلات ایک شم پچ دار (Semi-elastic) مادے سے بننے ہوتے ہیں جو انہی اسی خاصیت کی بنا پر کچھ جانے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت اختیار کر سکتے ہیں، تاہم اگر ایک یا ایک سے زیادہ کچھ جائیں تو اسکے آپس میں ملے ہوئے بھیلوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا باہمی تسلسل منقطع ہو جاتا ہے۔ ان کی معمول کی کارکردگی میں خلل پڑ جاتا ہے۔ ان عہلات کے روشنوں کے نوٹے کی مناسبت سے انہیں چار مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے درجے میں عہل کے چھوٹی ریٹن نوٹے ہیں اور ہر ریٹن کا خلفی تلاف یعنی "فیبا" (Fascia) بالکل نیک رہتا ہے۔ لیکن اس عہل کے کام کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا اور بھی محبوس ہوتا ہے۔ دوسرا درجے میں متاثر و عہلے کے بہت سے روشنوں کو نقصان پہنچاتا ہے جبکہ ان کے زیادہ تر تلاف نیک ہی رہتے ہیں۔ اندر وہی خون پہنچنے کی وجہ سے اس حصے میں سوزش اور چلد کی رنگت نیکوں ہو جاتا شامل ہے اور متاثر و حصے میں پھونٹا سا گومز یا "ہیما توما" (Haematoma) ہن جاتا ہے اور اس حصے

کی کاکر کر دیگی کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے اور اس میں درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔



تیرے درجے میں کسی عضلے کے بہت زیادہ ریٹنے اور ان کے خلفی غلاف پھٹ جاتے ہیں اور اس حصے میں کافی مقدار میں خون ہوتا ہے، اس حصے کی کام کرنے کی صلاحیت انجامی کم ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ جلدی رگت بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہے اور کافی برا "پیمائو" بن جاتا ہے۔

چوتھے درجے میں عضلوں کو دھوکوں میں بٹ جاتا ہے اور درد بہت شدید ہوتا ہے اور جلدی رگت بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس عضلے کی کام کرنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی جزو کی صورت میں اس کے حرکت کرنے کے صلاحیت میں انجامی کمی آ جاتی ہے۔ اس درجہ کی چوتھے میں عموماً آپریشن (Operation) کے ذریعے اس کے دہنوں دھوکوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ عضلاتی کچھاؤ میں سب سے اہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عضلے کے ریٹن کی جذبات جذمرت ہو سکے۔ چوتھے کی ابتدائی دیکھ بھال "RICES" کے طریقے کے مطابق کی جائے اور یہ علاج سوچن کی بنابر 24 سے 48 گھنٹوں تک جاری رکھا جائے۔

عضلاتی تناو (Muscle Cramp)

یہ عضلات کو سب سے زیادہ لکنے والی دوسری بڑی چوتھے ہے۔ اس میں کوئی عضله (Muscle) قیرار ادی طور پر سکڑ جاتا ہے اور کافی درجے تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ یہ عرصہ چند سینڈ سے لے کر کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ عضله میں یہ تناو تا معمولی بھی ہو سکتا ہے کہ صرف بالکل سا بھکھا دھوکوں ہو یا اس کی شدت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے سے نسلک بڑی کو توڑ دے (آولیشن) عضلاتی تناو اکثر ویسٹرکھیل کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار سوئے ہوئے شخص کو بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ عضلاتی تناو میں شدید درد کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ حرکت میں کبی یا بالکل ختم ہو جانا بھی شامل ہے۔ اس میں متاثر عضله کرنے کے بعد پھیلا ہی نہیں۔ عضلاتی تناو جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتا ہے مثلاً ناگنک، پاؤں، بازو، بازو، بازو اور سانس لینے میں مدد کرنے والے عضلات وغیرہ۔ عموماً یہ ایسے عضلات میں پیدا ہو سکتا ہے جو ضرورت سے زیادہ شدت یا یہ عرصہ کے لیے لگا تار کام میں مصروف رہیں۔ مشق کے دوران ان میں یا ہمیں عدم تعاون (Lack of Coordination) بھی اس کا موجب بن سکتا ہے۔ عضلات کے چیلے سکرنے کے عمل میں بے رہنمی کی زیادہ تر جوہات جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہوتی ہے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ پسندے کے ذریعے پانی کا ضائع ہونا، قرنا، دست لگانا وغیرہ اور نمکیات کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ مشق کے دوران جسم میں میگنیشم اور پونا شیم اور بہت معمولی

مقدار میں سوڈا میم کی کمی ہو جاتی ہے جو عام حالات میں پھل اور بزرگی کھانے سے پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لمبے عرصے کے لیے معمول کے مطابق سانس نہ لینے کی وجہ سے بہت سے چھوٹے چھوٹے اور جلدی جلدی سانس لینا (Hyper Ventilation)، جسم میں کیلائیم پوری طرح سے استعمال نہیں ہو پاتی یا مشتعل کے ذور ان کسی عضله میں لمبے عرصے کے لیے ذور ان خون میں کمی پیدا ہو جاتے۔ مثال کے طور پر سانس لینے کے عمل میں مدد کرنے والے عضلات میں خاص طور پر ”ڈایا فرام“ جو ایک عضله ہے۔ جس میں تاؤ کی وجہ سے پیٹ کے پہلوی جانب شدید درود ہوتا ہے (Stitch in the Side) اور سانس لینے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ ”ڈایا فرام“ کی پوری مقدار میں خون دستیاب نہ ہونا ہے۔ جب آپ گہرے سانس لینے میں تو چھپڑوں میں ہوا بھر جاتی ہے اور ڈایا فرام نیچے کی جانب سکھنے جاتا ہے۔ جب آپ دوزر ہے ہوتے ہیں تو ہر قدم لینے میں گھٹنا اور کمی جانب احتسبا ہے۔ جس کے لیے آپ کو اپنے پیٹ کے عضلات سکیڑنے پڑتے ہیں اور اس وجہ سے پیٹ کا اندر فی خلا (Abdominal Cavity) کم ہو جاتا ہے اور نیچے سے دباو دلانے کا سوجب بن جاتا ہے۔ جب دونوں جانب سے ڈایا فرام پر دباو پڑتا ہے تو اس میں خون کی دستیابی متاثر ہو جاتی ہے اور یہ سکڑ جاتا ہے، اس کے علاوہ پردہ ٹکم میں عضلاتی تاؤ پسلیوں کے پنیرے (آستخوانی پنیرے Rib Cage) کے نیچے اور بعض اوقات ”ٹورس (Torso)“ میں کافی اور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ سخت محنت یادوؤنے کے ذور ان پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آئتوں میں گیس (Gas) یا پیٹ میں خوارک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے موثر ترین تدبیری علاج درج ذیل ہیں: جب پردہ ٹکم میں عضلاتی تاؤ پیٹ کے دائیں جانب ہوں (جو بہت عام ہے) تو 30 پکڑنے کے لگ بگ عرصے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیں اور جب بھی آپ کا دائیاں پاؤں زمین پر پڑے تو زور سے سانس اندر سکھنے لیں اور اگر یہ بائیں جانب ہو تو جب آپ کا پاؤں زمین پر پڑے تو بھی زور سے اپنا سانس اندر سکھنے لیں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ عضلاتی تاؤ تختہ ہو نہیں جاتا لیکن اگر پھر بھی افاق نہ ہو تو اپنی رفتار مزید کم کر دیں اور اس طرح سے سانس لیں کہ پیٹ اندر اور باہر لگلے یا دونوں ہاتھ سر پر اس طرح سے رکھ کر دوڑیں کہ گھنیاں باہر اور یچھے کی جانب پھیلی ہوئی ہو اور ایک بڑا ہی کار آمد طریقہ اور بھی ہے جس میں اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر استخوانی پنیرے کے نیچے سے اوپر کی طرف گھیڑا/وحلکیلا جاتا ہے اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس بند مٹھی کو اوپر کی جانب مزید وکھلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرکو 90 درجے زاویہ تک سامنے کی جانب جھکا دیا جاتا ہے اور اسی حالت کو قائم رکھتے ہوئے سامنے کی جانب دس قدم لیے جاتے ہیں۔ اس عمل سے پردہ ٹکم پھیل جاتا ہے اور عضلاتی تاؤ خود بخوبی قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر مندرجہ بالا ان ترکیبوں میں سے کوئی بھی کارگر تباہت ہو تو دوڑنا بند کر دیں اور چنان شروع کر دیں اور اس وقت تک چلتے رہیں جب تک کہ درست قائم نہ ہو جائے۔ اگر پردہ ٹکم میں عضلاتی تاؤ پیٹ میں خوارک ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ دوڑنے سے پہلے کھانا مٹ کھائیں۔ جب تاؤ ناٹگ، بازو، ہاتھ یا پاؤں کے عضلات میں پیدا ہو تو اس حصے کو بذریعہ پھیلانے کے بعد گوندھنے (Kneading) کی شکل میں ماش کرنے سے متاثرہ عضله (Affected Muscle) کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے ابتدائی موثر ہوتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد: پیشتر اس کے چوت کے لیے طبی امداد مہریا کی جائے۔ اس کی لگنگ جائج اور شدت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کا

بُنور معاشر کرنا اور چوت لگنے کے واقعات (History of the Injury) کا جانا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر کھلوں میں لگنے والی چوٹوں کا علاج یقین دیے ہوئے ان دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

1- ابتدائی طریقہ گھبادشت۔ 2- ہالوئی طریقہ گھبادشت۔

ابتدائی طریقہ گھبادشت کے لیے انگریزی کے لفظ "RICES" کوہنمائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

(الف)۔ "R" (Rest) آرام: چوت لگنے کے ساتھ ہی ایک دم کھیل سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ خاص طور پر چوت زدہ حصے کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ کھیل جاری رکھنے کی صورت میں چوت میں اضافے کا ندیشہ ہو سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس چوت کی سخت یا بی میں تاخیر ہوگی، درمیں مزید اضافہ ہو گا اور خون بینے کا عمل جاری رہے گا۔

(ب)۔ "I" (Ice) برف:

جتنی جلدی ممکن ہو شکر برف کا پھیلا (Dry Ice Pack)

یا پاماسک کی قیمتی میں عام برف ڈال کر متاثرہ حصے پر تولیہ یا

کپڑا کہ 20 منٹ کے لیے ملیں اور چوت کی نوعیت کے

مطابق 24 سے 48 گھنٹے تک اس عمل کا اعادہ ہر ڈیڑھ سے دو

حکھنے کے وقت سے کرتے رہیں۔ یکدم خندک و پیچنے کی وجہ سے

اس حصے میں خون کی نالیاں سکر جاتی چیزیں جس کی وجہ سے ان

میں سے نکلنے والا خون متاثرہ حصے میں زیادہ مقدار میں جمع نہیں

ہو پاتا۔ اس کے بعد بھی اگر متاثرہ حصے میں درد یا سوچن رہے تو

وہ میں تین بار 15 سے 20 منٹ تک برف ملیں۔ سوچن پر

جلد قبوپا لینے سے چوت کی سخت یا بی کے عرصہ میں کمی ہو جاتی

ہے اور متاثرہ حصہ میں کم "سکارٹوز" پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ

سے اسی جگہ دوبارہ چوت لگنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

24 گھنٹوں کے بعد چوت کی حالت

(ج)۔ "C" (Compression) دباؤ: چوت کی شدت اور نوعیت کے مطابق چوت زدہ حصے پر 24 گھنٹوں

سے لیکر پانچ دن تک مناسب دباؤ کے ساتھ "کریپ ایلامسک جینڈ" (Crepe Elastic Bandage) یا اگر وہ دستیاب نہ ہو

تو عام پنی ہاندھ دینی چاہیے۔ پنی ہاندھ سے وقت اختیاط برتنی چاہیے کہ اسے بہت زیادہ کس کرنے باندھا جائے تاکہ یہ اس حصے میں خون کی

گردش ہی نہ بند کرے۔ خون کی گردش کا بند یا بہت تیکم ہو جانے کی صورت میں ناشانی کے طور پر اس حصے کا سن ہو جانا، پٹھکے کا چڑھنا ایسا

میں شدید درد کا ہوتا شامل ہے۔ جتنی جلدی بھی ممکن ہو مناسب دباؤ کے ساتھ پنی ہاندھ دینی چاہیے تاکہ زیادہ ہموڑش نہ ہونے پائے۔ چوت کی

وجہ سے خون، لیف (Lymph) اور ارگوڑ کے خلیوں سے نکلنے والا مواد چوت زدہ حصے میں بھی جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے نوٹی ہوئی

بانٹوں کے جزو میں درد ہو جاتی ہے۔ سوچن زدہ حصے میں "انٹنی بازیز" (Antibodies) کو لانے میں بہت مفید ہوتی ہے لیکن اگر

جلد میں رخصن: وہ طبق "انٹنی بازیز" کی ضرورت نہیں ہوتی، بانٹوں، خون کی نالیں اور لفافی بانٹوں کے چوت جانے سے نکلنے والا مواد اور گروکی بانٹوں

میں جمع ہو کر جاتا ہے، جیسے "بیجا نوما" یا گورم کہتے ہیں۔ جتنا برا "بیجا نوما" ہو گا اتنا لمبا عرصاں کے شتم ہونے کے لیے درکار ہے۔



(د) "E" (Elevation) اونچاً مٹھا:

اچھت زدہ عضو کو دل کی سطح کی نسبت اونچاً مٹھا دیا جائے لیکر اس حصے کی شریانوں میں خون کی گردش کم ہو جائے۔ جس کی وجہ سے متاثرہ حصے میں بافتؤں اور خون کی نالیوں کے پھٹ جانے سے باہر نکل آنے والا مواد بیخ نہیں ہو پاتا ورنہ یہ مواد جمع ہو کر جم جاتا ہے اور گومز کی تکلیفی احتیار کر لیتا ہے۔ سہارے کے لیے تجیب یا کسی اور مناسب چیز کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(ه) "S" (Support) سہارہ دینا:

جس قدر بھی ممکن ہو متاثرہ حصے کو حرکت سے بچائیں میں لیکن اگر ایسا کرنا نہایت ضروری ہو تو اس حصے کو سہارا دینے بغیر حرکت نہ دیں مثلاً بازو کی چوت میں گلے کی پئی "سینگ" (Sling) کھپاچ اور ناگنگ کی چوت کی صورت میں بیساکھی یا چھڑی کا استعمال یا ٹانکتی بند (Braces) اور ٹانکتی پئی (Taping) ڈاکٹر کے مشورہ سے "درکش" ادویہ (Analgesics) کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب سوزش کا بڑھنا بدہ ہو جائے یا کم ہوئی شروع ہو جائے تو غالباً طریقہ علاج فوراً اپنائیں جو درج ذیل ہے۔

(الف) گرمائش (Heat):

متاثرہ حصے کو میں منت کے لیے ہر ڈیزہ سے دو گھنے کے وقف سے گرمائش پہنچائی جائے۔ یعنی اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کھلاڑی تکمیل طور پر صحت یا بُنیں ہو جاتا ہے۔ کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے سے پیشتر ہٹ مانقدم کے طور پر پہلے چند دنوں میں چوت زدہ حصے پر چکنے والا پلاسٹر (Strapping / Taping) (Sticking Plaster) کے ذریعے مخصوص طریقے سے پئی (Plaster) پاندھدی ہو جائے۔

(ب) مقاصل (Contrast Bath):

چوت زدہ حصے کو باری باری دو منت کے لیے شنڈے پانی میں میں منت کے لیے ڈالتے رہیں۔

(ج) برف کی ماش (Ice Massage):

ہر ڈیزہ سے دو گھنے کے بعد میں منت کے لیے برف کی ماش کی جائے۔

(د) سوچن ڈور کرنے والی ادویہ کا استعمال:

اسی ادویہ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیجئے۔

مندرجہ بالاطریقہ علاج اپنائے اور چوت کو تھیک ہونے کے لیے مطلوبہ وقت دینے سے کھلاڑی کم سے کم عرصہ میں تمرست ہو کر کھیل میں شامل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کھلاڑی کی جلد از جلد بحالی (Rehabilitation) کے پیش نظر مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔

-1 مکمل حرکت کے دائرہ کا حصول (To Regain full Range of Movement)

-2 عضلات کی کھوئی ہوئی طاقت کا حصول (To Regain lost Strength of Muscles)

- 3۔ حفاظی اقدامات (Protective Measures) -

حفظی اقدام کے طور پر بھیل میں شامل ہونے سے پوشٹ مندرجہ ذیل کا استعمال اشد ضروری ہے۔

(الف) "پک والی پٹی" (Elastic Bandage) -

(ب) "کمپرسیشن سلیو" (Compression Sleeve) -

(ج) چوت زدہ حصے پر چکنے والی پٹی سے مخصوص طریقے سے پٹی باندھ لینا (Strapping) -

4۔ متاثرہ حصے میں درد کا ختم ہو جانا۔

5۔ مکلاڑی کو بھیل میں شامل ہونے کے لیے نفیاٹی طور پر تیار کرنا (Psychological Readiness) اور چوت دوبارہ لگانے کے ذر کو ختم کرنا۔

چوت لگانے کی صورت میں جسم کا رو عمل:

جسم میں چوت لگنے کے قدرتی رو عمل کے طور پر اس حصے میں خون کا دورہ کم ہو جاتا ہے تاکہ خون کم سے کم شائع ہو۔ خون کی چوت زدہ نالیوں کے سرے اندر کی جانب سکر جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بکم کم ہو جاتا ہے۔ اگر زخم بڑا ہو تو اسی خون کی نالیاں جو جلد اور عصالت کو خون مہیا کرتی ہیں، سکر جاتی ہیں تاکہ اعضاۓ رئیس کو خون کی فراہمی جاری رہے، جب چوت زدہ حصے میں خون کی نالیوں سے خون باہر نکل آتا ہے تو یہ خوس اوتھرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خون کا یہ اوتھرخون کی نالی میں ذات کا کام کرتا ہے اور زخم کے منڈ کو بند (Seal) کر دیتا ہے۔ اس حصے میں جراشیم کے داخل ہونے کی صورت میں وہ اپنا وفاqi نظام استعمال کرتا ہے۔ زخم کے شیک ہونے کے ابتدائی مرحلہ میں داخل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان باتفاق میں سوچن پیدا ہو جاتی ہے جو اس علاقے کی بافتون میں سے بہہ لئے والے غرغ اور سقید خلیوں یا خون کا سیال مادہ یا سیرم (SERUM) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

زخم میں جراشیم کا پھیلانا:

تمام گھلے زخموں میں جراشیم داخل ہونے اور پھیلنے کی وجہ پا چوت لگنے کا سبب ہوا یا لمحی امداد دینے والے کے سائنس یا اس کی افکار ہوتی ہیں۔ تھسان زدہ باتفاقوں میں سے خون بنتنے کی وجہ سے گرد کے ذرات نکل جاتے ہیں اور جو خطرناک جراشیم اس میں رہ جاتے ہیں، انہیں خون کے سقید خلیے نیست و نایو کر دیتے ہیں اور زخم ان سے پاک ہو کر شیک ہو جاتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد:

زخم کی دیکھ بھال میں سب سے اہم قدم جراشیم کو اس میں داخل ہو کر پھیلنے سے رکنا ہے۔ اس کوئی بھی زخم جو 48 گھنٹوں کے بعد بھی معمول کے مطابق لحیک ہونا شروع نہ کر دے تو اس کی وجہ "انفلکشن" (Infection) ہو سکتی ہے جو اس میں ابھی تک گرد کے ذرات، مژوہ باتفاقوں، کسی بیرونی عضر یا بیکشیریا (Bacteria) کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انفلکشن کے نتائج کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ خون میں مل کر جسم کے دوسرے حصوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان حصوں کی باتفاقوں کو مستقل طور پر بجاہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آخر کار موت واقع ہو سکتی ہے۔

جراثیم آلوہ زخم کی علامات:

- زخم میں درد اور گردن (Soreness) میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
- ii- زخم اور اس کے اندر گرد کے علاقے میں سوزش اور سرخی بڑھ جاتی ہے اور اس حصے میں حرارت اگر باہت کا احساس ہوتا ہے۔
- iii- زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے۔
- iv- اگر انفیکشن بہت شدید ہو تو بخار، پیسٹ، پیاس، کمپاہت، سستی اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔
- v- لفائی ندوووں (Lymph Glands) میں سوچن ہو جاتی ہے اور ہاتھ لگانے سے ذکری ہیں اور ان ندوووں میں "الفت" لے جانے والی نالیاں بھی سرخی مائل نظر آئیں گی۔

انفیکشن کے خلاف جسم کا وفاگی نظام:

یہ بالوں کی مانند باریک نالیوں کا ایسا نظام ہے جو تھوڑے تھوڑے وقق کے بعد گلٹی نما ندوووں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں جنہیں لفائی ندووں (Lymph Glands) کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن کے خلاف جسم کے وفاگ میں مددیت ہیں۔ لمحت ایک سیال مادہ ہے جو ان نالیوں میں گردش کرتا ہے اور سفید ٹیلیوں (Leucocyte) سے بھر پور ہے۔ یہ سفید ٹیلے جسم میں داخل ہونے والے جراثیم کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب "الفت" ان ندوووں میں سے گزرتا ہے تو وہ انہیں اپنے اندر رک یعنی ہیں اور پھر ان کو بھکانے لگا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ خون میں شامل نہ ہونے پائیں۔ ہمارے جسم میں ظاہری طور پر نظر آنے والے تن ایسے حصے ہیں جہاں پر یہ ندووں کا نی مقدار میں موجود ہیں، مثلاً اگردن، بٹلیں اور جانگو (Groin) وغیرہ۔ انفیکشن کی مناسبت سے اس خاص حصے کے ندووں سوچ جاتے ہیں اور ان میں درد بھی ہوتا ہے۔

زخم کی ابتدائی دیکھی بھاول:

- جراثیم سے پاک (Sterile) اور ووائی کے بغیر (Unmedicated Dressing) اپنے دار پٹی کا گلزار کر کر اس کے اوپر مناسب دباو کے ساتھ پٹی باندھ دیں۔
- ii- چوتھو حصے کو دل کی نسبت اونچا اٹھادیں اور اسے غیر حرکت پذیر (Immobilise) بنا دیں۔
- iii- مریض کو ہسپتال بھیجنے کا جلد از جلد بندوبست کریں۔

"ہارڈ ٹشوار انجریز" (Hard tissues Injuries)

ہڈی کا ثوٹا "فریچر" (Fracture):

انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں جو بے پک اور "کیلیشم" کی بنی ہوئی ہیں اور جسم کا ڈھانچہ بناتی ہیں۔ یہ عضلات کے لیے "لیورز" (Levers) کا کام کرتی ہیں اور جسم کے اندر وہی اعضا کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کے اندر گردہ ہوتا ہے جو خون کے سرخ ٹیلے

ہناتے ہیں۔ بڑیاں جسم میں "کالیکٹیم" (Calcium) اور "فاسفورس" (Phosphorus) کا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ اگر بڑی پر بہت زیادہ دباؤ پڑ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اکثر اوقات کھیل میں ہناف کھلاڑی کو بڑی طرح سے روکنے، سروک پر چلتے چلتے گرپنے یا پاؤں زمین پر بار بار مارنے سے ٹوٹ سکتی ہے۔ بڑی کی سطح کے نوٹے یا اس میں دراڑ پڑنے کو فریکچر کہتے ہیں۔ بڑی و طرح سے ٹوٹی ہے۔ پہلی قسم میں یہ ٹوٹ کر دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا قسم میں بڑی میں بال آ جاتا ہے۔ لیکن یہ دو حصوں میں منقسم نہیں ہوتی، مثلاً "گرین سٹک فریکچر" (Green Stick Fracture) اور "سٹرس فریکچر" (Stress Fracture)۔ بڑی کی پہلی قسم کی شکلی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑی کے نوٹے ہوئے تو کیلئے سروں میں بہت ساری عصبی نیسیں ہوتی ہیں۔ جب یہ آپس میں یا دوسرے ریٹنول سے رگڑ کھاتی ہیں تو یہ شدید درد کا موجب بنتی ہیں اور ان میں درد اور سوچن کافی عرصہ تک یعنی ۴ ہفتواں اور گھنیوں تک رہتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر مریض کو درکش دوام تو اتر دیتے رہتے ہیں۔ زخمی شخص کی ابتدائی دیکھ بھال بڑی احتیاط سے کریں کیونکہ بڑی کے نوٹے کیلئے سر سے اگر کسی عصبی نیس کو کاٹ دیں تو یہ تمام عمر کے لیے مغلوب کر سکتے ہیں یا خون کی کسی نالی کے کٹ جانے سے خون کا بہت نیاع ہو سکتا ہے یا جلد کو بچاڑ سکتے ہیں جس کے ذریعے جراہم جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ بڑی کے نوٹے کے لیے کافی مقدار میں دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم بڑی عمر کے لوگوں کی بڑیاں بہت ہی بے پلک اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ہلکے سے دباؤ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بچوں کی بڑیاں بہت نرم اور پلک دار ہوتی ہیں اور چوٹ لگنے سے نوٹے کی بجاۓ آکر شیر ہی ہو جاتی ہے۔

بڑی ٹوٹنے کی وجہات (Causes of Fracture)

i- بلا واسطہ چوٹ (Direct Blow)

چوٹ لگنے کی جگہ پر سے بڑی کا ٹوٹ جانا۔

ii- با واسطہ چوٹ (Indirect Blow)

چوٹ جس جگہ اس سے کچھ فاصلے پر سے بڑی کا ٹوٹنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سیدھے پھیلائے ہوئے ہازروں کے بل زمین پر گر جائے تو چوٹ کا صدمہ ہازروں کے راستے جا کر انہی کی بڑی اور ٹکڑے کے ہو جائے۔

iii- مخالف طاقتیں (Opposing Forces):

جب بڑی کے دونوں سروں پر مخالف سوتوں سے شدید دباؤ پڑ جائے جس کی وجہ سے یہ ایک خاص حد تک میزجی ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔

iv- عضلات کا شدت سے سکڑنا (Strong Muscular Contraction)


اس قسم کی شکلی شاز و نادرتی ہوتی ہے۔ جب کوئی عضله انتہائی شدت سے سکڑے تو بڑی کا وہ حصہ جو اس کے رہ باٹ (Teandon) کے ذریعے اس سے مسلک ہے، اوت کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسے انگلیکی زبان میں "آولیشن" (Avulsion) کہا جاتا ہے۔

ہڈی ٹوٹنے کی نشانیاں و علامات (Indications of Fracture)

- زخمی ٹھیک کو ہڈی ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے یا اس کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔
- ہڈی ٹوٹنے کی جگہ پر نہایت شدید درد ہوتا ہے اور اس جگہ سوچن ہو جاتی ہے۔
- اعضا کو حرکت دینے میں تنکیف ہوتی ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔
- اعضا کی قدرتی عکل میں تبدیلی آجاتی ہے اور یہ بدوضم ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات ہڈیوں کے سرے ایک دوسرے پر چڑھ جانے سے ان اعضا کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔
- حرکت دینے اور شکستہ ہڈیوں کی آپس میں رگڑ کھانے سے رگڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کی عملی جانش کے لیے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔
- چھٹی ہڈی اندر کی جانب ٹھیک جاتی ہے اور رُگڑ حساس بن جاتا ہے۔
- کھلے زخم سے وابستہ ٹھیکی "اوپن فرچر" (Open Fracture) کی صورت میں ہڈیوں کے سرے صاف نظر آتے ہیں۔
- اکثر اوقات صدمے کے آثار خودار ہو جاتے ہیں۔

ہڈی کی ٹھیکانی کی اقسام (Kinds of Fracture)

- "فرچر" سے مراد ہڈی کا کامل یا ناکامل طور پر ٹوٹنا یا اس کے تسلیل کا خاتمہ ہے۔ اس کی اہم دو قسمیں ہیں۔
- "کلووزڈ فرچر" (Closed Fracture) ہے آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔
 - کھلے زخم سے وابستہ ٹھیکی یا "اوپن فرچر" (Open Fracture) ہے اسے آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔
- "اوپن فرچر" کو "کمپاؤند فرچر" (Compound Fracture) بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ہڈی کے ٹوٹنے ہوئے سروں یا کسی بیرونی عضر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثلاً بندوق کی گولی جو باہر سے جسم میں داخل ہوتی ہے پہلے زخم کرتی ہے اور پھر ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ اوپن فرچر میں اکثر خون کی کمی ہالی کے کث جانے سے خون بہت بہتا ہے۔ ایکس ریز (X-Rays) کی مدد سے فرچر کی مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔



- "کوئی ہڈ فریچر" (Comminuted Fracture)

اس میں بڑی لوت کرتینا یا اس سے زیادہ کلروں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ بلا واسطہ چوت گلنے سے پیدا ہوتا ہے۔

- "ڈپریسڈ فریچر" (Depressed Fracture)

جسم میں چھپنی بڑیوں کو چوت گلنے سے وہ اندر کی جانب دھنس جاتی ہیں، مثلاً کھوپڑی یا کوہے کی بڑیاں، اس طرح کی شکل میں بڑیوں کے اندر زرم ہافتوں کو چوت گلنے کا اندر یہ ہوتا ہے۔

- "گرین سٹک فریچر" (Green Stick Fracture)

چوت گلنے سے چھوٹے بچوں کی بڑیاں کامل طور پر نونے کی بجائے نیز ہی ہو جاتی ہیں اور ان میں ایک طرف دراز پڑ جاتی ہے۔

- "امپکٹڈ فریچر" (Impacted Fracture)

اس طرح کی شکل بڑی بڑیوں میں ہوتی ہے جو اکثر اونچی جگہ سے کوئے سے بڑی کے نونے سے ہوئے ہوئے دلوں سرے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔

- "ملٹیپل فریچر" (Multiple Fracture)

یہ اصطلاح کسی ایسے فریچر کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں ایک ہی بڑی ایک سے زیادہ جگہ سے مختلف بڑیاں ایک ساتھ نوٹ جاتی ہیں۔

- "لاگی ٹیوڈل فریچر" (Longitudinal Fracture)

اس میں لمبائی کے رخ بڑی میں دراز پڑ جاتی ہے۔ جس سے بڑی میں تھوڑا اساحلا پیدا ہو جاتا ہے۔

- "اوبلین فریچر" (Oblique Fracture)

اس میں بڑی اپنے وتری رخ نوٹ جاتی ہے۔ اس طرز کی شکل میں حرکت سے عصبی ریٹوں یا خون کی نالیوں کو بڑی کے توکیلے سروں کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور ذرا سی بے احتیاطی اسے اوپر فریچر میں تبدیل کر سکتی ہے۔

- "سپرل فریچر" (Spiral Fracture)

یہ لاگی ٹیوڈل فریچر سے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بڑی سیدھی نونے کی بجائے اگریزی کے حرف "ایس" کی شکل میں نوٹ جاتی ہے۔ یہ اکثر اوقات ان حالات میں پیدا ہوتا ہے جب پاؤں مضبوطی سے زمین پر چلتے ہوئے ہوں اور گھومنے والی طاقت چاف سست میں استعمال کی جائے جیسا کہ براف پر "سکی ایک" (Skiing) میں کیا جاتا ہے۔

-ix۔ "سڑیں فر پکھ" (Stress Fracture)

اس میں اکثر کمزور اور پیار شخص یا عضلات کے شدت سے سکلنے کے رویل میں ہڈی کی سطح میں معمولی درازیں پڑ جاتی ہیں۔
نوت: یہ چوتھا کھلاڑیوں میں بہت عام ہے اس لیے نمبر 278 پر اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

-x۔ "ٹرانسورس فر پکھ" (Transverse Fracture)

اس میں ہڈی اپنی لمبائی کے رخ بالکل قائم راوی کی تکلیف میں نوٹ کرو جھومن میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

-xi۔ "سیر یا ٹلہ فر پکھ" (Serrated Fracture)

اس میں نوٹی ہوئی ہڈی کے کنارے دندانے دار اور بہت نوکیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی نالیوں اور حصی رینٹوں کو نقصان پہنچنے کا مندیش ہوتا ہے۔

ابتدائی طی اعداد:

ہر مکن کوشش کی جائے کہ زخمی شخص کو اس وقت تک حرکت نہ دی جائے جب تک یہ نہایت ضروری نہ ہو۔ کیونکہ حرکت سے نہ صرف شدید درد ہوتا ہے بلکہ چوتھا گزارنے کا بھی اندریش ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ صرف تربیت یا فتنہ بھی امداد کا عملہ ہی زخمی کی دیکھی بھال کرے، اس لیے اس کا آنے کا انتظار کیا جائے، اس دوران زخمی کو آرام دہ حالت میں رکھنے کی ہر مکن کوشش کی جائے۔
اس کے علاوہ بھی درج ذیل خاصیتی مدد اور احتیاط کی جائیں گے۔

i. اگر زخمی سانس لینے میں تکلیف ہو جوں کرے، اس کا خون شدت سے بہرہ ہا ہو یا وہ بے ہوش ہو تو فر پکھ کی دیکھی بھال سے پیشتر ان کا مدارک کیا جائے۔

ii. زخمی شخص کو چوتھے لگنے کی جگہ پر ہی ابتدائی طی امداد ہیا کی جائے اور صرف اسی صورت میں اسے ہاں سے ہٹایا جائے جب اس کی جانب کو خطرہ ہو یا سوسماز گارہ ہو۔

iii. اگر وقت اجازت دے تو زخمی کو ہاں سے ہٹانے سے پہلے واقعی طور پر ٹکٹتھے کو غیر متحرک کریں اور پھر اس حصے کو ہاتھوں سے سہارا دے کر اسے ہاں سے ہٹائیں۔

iv. ٹکٹتھے کو غیر متحرک ہانے کے بعد دل کی تبست اور چاٹھا دیں تاکہ اس حصے میں کم سے کم سو جن ہو سکے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہڈی نوٹے کے بعد اعضا اپنی اصلی تکلیف کھو دیتے ہیں اور ان پر پی کرنا مکن نہیں ہوتا، صرف اسی صورت میں ٹکٹتھے کو آہست آہست اور احتیاط سے ہتنا بھی مکن ہو سیدھا کر لیں اور کھمیجی یا کھپان رکھ کر پی کا نہ ہو دیں۔

v. ٹکٹتھے کو ہاتھوں سے سہارا دیئے رکھیں اور اس کو بے وجہ حرکت نہ دیں۔ زخمی کو ہپتال لے جانے سے پہلے ٹکٹتھے اعضا کو صحیح اعضا کے ساتھ پاندھ دیا جائے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مثلاً بازو کو سینے کے ساتھ اور ٹانگ کو دوسرا ٹانگ کے ساتھ مناسب دہاؤ سے پاندھ دیں۔ لیکن خیال رہے کہ خون کی گردوں متاثر نہ ہو۔

۷۱۔ صدمے کے آثار خودار ہونے کی صورت میں اس کامناب علاج کیا جائے اور سریعیں کو جلد از جلد سپتال بھیجنے کا بندوبست کیا جائے۔

"سٹریس فرکچر" (Stress Fracture)

عقلات کے شدت سے سکرنے سے ہڈی کی سطح پر نہایت ہی باریک درازیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر پاؤں، ٹانگوں اور ہاتھوں کی ہڈیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے پہل اس جگہ پر معمولی درد ہوتا ہے جو لبے عرصے کے لیے لگاتا رہتے رہنے سے بتدرنگ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر دوسرے دن جوئی دوڑنا شروع کیا جاتا ہے، درد پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی دوڑ نہ بندن کریں تو یہ درازیں مزید بڑھ جاتی ہیں اور پھر اس حصے میں یا تو صرف چلنے پھرنے سے درد ہوتا ہے یا پھر ہفت درور ہتا ہے۔ ہرجم کے "سٹریس" سے ہڈی میں بتدرنگ تو پڑھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ دراصل ہڈی کے خلوں کے نوشے اور انکی مرمت ہونے میں توازن برقرار رکھنی رہتا۔ اکثر اوقات پاؤں کی بہت اونچی محاب ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا پاؤں زمین پر پڑتا ہے تو صدمے کی شدت انکی ہڈیوں کو برداشت کرتا پڑتی ہے جس سے اپھی ہٹم کی جوئی پہنچ سے کافی حد تک بچا جاسکتا ہے۔ اس فرکچر کی جانشی کے لیے متاثرہ جگہ پر دونوں طرف سے الگیوں کی پوروں کا دباؤ ڈال کر کیا جاتا ہے۔ جبکہ باطیا جوڑ کے بندھن کی چوٹ میں صرف ایک طرف درد ہوتا ہے۔ یہ درازیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ "ایکس ریز" (X-Rays) میں ظہر نہیں آتیں۔ لیکن دو یا تین ہفتوں کے بعد جب ان پر ٹھیک تھبہ چڑھ جاتی ہے تو یہ "ایکس ریز" میں ظهر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ہڈیوں کی چوٹ کی مثال بالکل اسی ہے جیسی کہ پیمنی کے اندر کشورہ ٹھجھی (Oyster) ریت کے ذرے پر جیسی چڑھا کر موٹی بنادیتی ہے۔ چوٹ زدہ ہڈی پر ٹھیک ہڈی تھبہ در تھبہ چڑھنے سے ان کی شکل اور جسمات مختلف ہو جاتی ہے۔ جس طرح جلد کے اوپر سے ظہیر اترتے جاتے ہیں، ہڈیوں میں بھی یہی عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ سٹریس فرکچر کے علاج کے طور پر متاثرہ حصے پر پلستر چڑھایا جاتا (Cast)، کیونکہ اس سے اس حصے کے عقلات چھوٹے اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کھیل میں تجدیلی سے یہ ہٹھے نہیں پاتے، مثلاً دوزنے والا کھلاڑی اگر دینی طور پر تیرا کی یا سائیکلنگ اپنائے۔ سٹریس فرکچر کی مصدقہ جانشی "بون سکن" (Bone Scan) کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ جس میں ریلیو ایکٹو (Radio-active) مادہ جسم میں بیکے کے ذریعے دفل کر دیا جاتا ہے۔ اس مادے کے ذرات تمام جسم میں گردش کرتے ہیں اور یہ اس حصے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ہڈی تھیک ہونے کے عمل میں ہوا اور بہت ہی حساس کیمروں سے لی ہوئی تصویر سے چوٹ زدہ حصے کی نشان دہی ہو سکتی ہے۔



متعدی امراض کے اسباب اور روک تھام

(Infectious Diseases & its Remedies)

وہ بیماریاں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہو جاتی ہوں، "متعدی امراض" کہلاتی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ متعدی بیماریوں کے پھیلنے میں باہمی میل جوں سرفہرست ہے۔ یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص تک بیماری کے جراحتیم کا پہنچنا خواہ برداور است میل جوں یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ چنانچہ متعدی امراض کے پھیلنے کے اسباب مندرجہ ذیل حصول میں قائم کیے جاسکتے ہیں۔

- 1- زندہ جراحتیم کے ذریعے۔
- 2- خواراک اور پانی کے ذریعے۔
- 3- جلد کے زخم کے ذریعے۔
- 4- مختلف اشیا کے ذریعے۔

1- زندہ جراحتیم کے ذریعے:

مریض کے کھانے، جھینکنے اور بولنے سے جراحتیم دوسرے انسان کے جسم میں ناک، مند و غیرہ کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انفواائز، خسرہ، کالمی کھانی وغیرہ پھیلتی ہیں۔ مریض کے ناک یا گلے کی رطوبتیں بعض اوقات زمین پر گر جاتی ہیں اور وہ خشک ہونے پر مٹی میں میل کر ہو میں آؤتی رہتی ہیں۔ چونکہ یہ گرد جراحتیم آلو کروٹی ہے لہذا جو شخص اس میں سانس لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ گرد کھلی خواراک پر گر کر اسے جراحتیم آلو کروٹی ہے یا جلد کے زخم پر پڑتی ہے اور زخم کے ذریعے جراحتیم بدن میں داخل ہو جاتے ہیں۔

2- خواراک اور پانی کے ذریعے:

ہیض، تپ، محرق اور کلی جسم کے بچش خواراک اور پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں نیز بارگائے کے ڈودھ کے استعمال سے دن کا مرٹس لاقٹن ہو جاتا ہے۔

3- جلد کے زخم کے ذریعے:

بعض اوقات جلد میں زخم ہونے کی وجہ سے جراحتیم جسم میں داخل ہو کر بیماری کا باعث بن جاتے ہیں اور کوئی دفعہ جراحتیم بال کی گلٹی (Hair Follicles) کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جلد پر کوئی زخم نہیں ہوتا۔ کئی بیماریاں کیڑوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ ہے ماڈ پھریا کاٹنے والی کمی خون چوستے وقت انسانی جسم میں جراحتیم منتقل کر دیتی ہے۔

4- مختلف اشیا کے ذریعے:

طلبا و طالبات کی قیام گاہوں میں کھانے کے برتن، تویہ وغیرہ کے مشترک استعمال سے متعدی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس طرح

مریض کی رطوبت سے آلوہ، بستر کا تدرست انسان کے لیے استعمال کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مرض کے جراثیم ہر اس جیز میں موجود ہوتے ہیں جسے مریض نے استعمال کیا ہو، مثلاً دروازے کے دستے، قلم، پھل وغیرہ۔
مندرجہ بالا عنوانات کے تحت چند متعارف بیماریوں کا ذکر حسب ذیل ہے۔

چیچک (Small Pox)

یہ ایک خطرناک متعدی بیماری ہے جو ایک خاص وائرس سے پھیلتی ہے۔ یہ اگر کسی کو ایک دفعہ ہو جائے تو تمام عمر یہ بیماری سے دوبارہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کے علاوہ بہت سے ممالک میں یہ بیماری نایبید ہو چکی ہے۔

مرض پھیلنے کے اسباب:

- چیچک کے جراثیم مریض کے ناک اور گلے کی رطوبتوں اور سانس میں ہوتے ہیں اور مریض کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ہوا کے ذریعے اس بیماری میں چلا کر دیتے ہیں۔
- مریض کے جسم سے جو چٹکے اترتے ہیں وہ بھی جراثیم سے بھر پور ہوتے ہیں اور مرض پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔
- مریض کے کپڑے اور بستر جراثیم سے آلوہ ہونے کی وجہ سے بیماری پھیلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

علامات (Indications)

بیماری کی ابتداء میں تکلی آنا، سردی لگانا، سر اور کمر میں درد، گلے کی خراش اور کھانسی ہوتی ہے۔ تیرے دن جلد پر سرخ بندکی (Rash) نکل آتی ہے جو دھڑکی کی نسبت چھرے کے اوپر والے حصے اور بازوں پر زیادہ ہوتی ہے جو اگلے دن سیاہی ماکل سرخ دانوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کے 2 دنوں میں ان میں پانچ بھر جانے سے پھالے بن جاتے ہیں اور ساتوں سے دوسرے دن ان میں پھیپ پڑ جاتی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے وہ ران یہ خٹک ہو کر سیاہ کھربندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو چدر ہوئیں سو یوں دن تک اتر جاتے ہیں گریہ گھرے اور بندوائی غیر بھر کے لیے جسم پر نشان پھوڑ جاتے ہیں۔

روک تھام:

- بچے کو پیدائش سے چھ ماہ کے اندر چیچک کا ابتدائی بیکار لگواد جا چاہیے۔
- مریض کو اگر گھر میں رکھنا مقصود ہو تو پاکل الگ کرے میں رکھا جائے۔ بصورت دیگر مریض کو فوری طور پر دیاں امراض کے ہپتاں میں منتقل کر دیا جائے۔
- مریض کی بیماری کے لیے کم سے کم لوگ جائیں۔
- کنبہ اور پڑوں کے تمام افراد کو چیچک کا بیکار لگواد لینا چاہیے۔
- مریض کے بیماردار کو چاہیے کہ بیماری کے بعد فوراً کپڑے تبدیل کر لے۔
- مریض کے تدرست ہونے یا مرجانے کے بعد کرے میں جراثیم کش دو چھڑکی چاہیے۔ فرش اور سامان کو گرم پانی اور صابن یا

جراشیم کش محلول سے دھونا چاہیے نیز مریض کے کپڑوں اور مسٹر کو جادو بینا چاہیے۔

7- جب بھی کسی کو چیچک لاحق ہو تو فوراً احکام صحت کو اطلاع دئی چاہیے۔

لاکڑا کا کڑا (Chicken Pox)

یہ وارس سے ہونے والی متحدی بیماری ہے اگر کسی کو ایک بار ہو جائے تو وہ پھر عمر بھر کے لیے اس سے ممتنع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر 12 سال سے کم عمر بچوں کو ہوتی ہے۔ یہ مریض کے من اور ناک سے نکلنے والی بیماری یا وارس آلوہ اشیا کے استعمال کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس کا انکوبیشن پریڈ (Incubation Period) 14 سے 21 دن کا ہوتا ہے۔

علامات (Indications)

لاکڑا کا کوامعمولی بخار سے شروع ہوتا ہے اور اس کی بندکی (Rash) پہلے دن ہی ظاہر ہو جاتی ہے جو ایک ہی دن میں دالوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دنے تیرے یا چوتھے دن چھالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پانچوں سے آٹھویں دن تک ان میں پیپ پڑ جاتی ہے جو اگلے ایک دو دن میں سوکھ کر کر وڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کھروڑا اتر جاتے ہیں تو جلد پر پکلے گلابی رنگ کے دھبے رہ جاتے ہیں۔ یعنی چیچک کی طرح کوئی گہر انداز نہیں پڑتا۔ اس بیماری میں سب دانے ایک ساتھ نہیں نکلتے بلکہ قطبون میں نکلتے ہیں۔ اس لیے دانے، آبلے اور پیپ آلوہ چھالے ایک ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کے دانے چہرے، بازوؤں اور ٹانگوں کی نسبت جسم کے دھر (Centri-Petal) پر زیادہ ہوتے ہیں، جب کہ اس کے برکھ چیچک میں دانے دھر کی بجائے چہرے، بازوؤں اور ٹانگوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔

حاظتی تدابیر:

بیماری کے دوران منہ، ناک اور بندکی کے مواد سے آلوہ کپڑوں اور دیگر اشیا کی روزانہ جراشیم کش کریں اور مریض کو علیحدہ کر کے میں رکھیں، بندکی کے نکلنے سے ایک ہفت بعد تک بچے کو سکول نہیں جانا چاہیے (ابھی تک اس کی کوئی ویکسین (Vaccine) تیار نہیں ہوتی)۔

خرہ (Measles)

یہ بھی وارس (Virus) سے ہونے والی ایک متحدی بیماری ہے جو عام طور پر سردیوں میں چھوٹی عمر کے بچوں کو لاحق ہوتا ہے۔

مرض پھیلنے کے اسہاب:

- 1- اس مرض کے جراشیم ناک اور گلے کی رطبوتوں میں پائے جاتے ہیں اور کھانی کے ذریعے دوسرے بچوں میں پھیلتے ہیں۔
- 2- مریض کے لحاب سے آلوہ کپڑے اور دیگر زیر استعمال اشیا سے مرض پھیلاتا ہے۔

علامات (Indications):

اس بیماری کے لاحق ہونے کے شروع میں جیکس آنا، ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا، گلے میں سورش اور کھانسی کے ساتھ ساتھ 100 درجے "فاران ہائیٹ" کے قریب بخار ہو جاتا ہے جو صحیح کے وقت کم اور شام کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے دن گالی بند کی تکل آتی ہے جو پہلے ماتھے اور کانوں کے پیچے ظاہر ہوتی ہے، مگر چند ہی گھنٹوں میں پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور بخار تیز ہو جاتا ہے۔ تریا دسویں دن نہایت باریک چلکے اتر جاتے ہیں۔

روک تھام:

- 1 مریض کو علیحدہ کمرے میں رکھا جائے۔
- 2 مریض پنج کوچ دو دن تک کے لئے سکول نہ جانے دیا جائے تاکہ یہ مرض دوسرا نہ تدرست پھول میں نہ پھیل جائے۔
- 3 دبا کی صورت میں سکول بند کر دیئے جائیں۔
- 4 مریض کے تدرست ہونے کے بعد اس کے استعمال کی ہر چیز کی جراحتی ضروری ہے۔
- 5 خرے کی "ویکسین" (Vaccine) کا نکدایک سال کی عمر میں ہر پنج کو گلوانا چائے۔

ہیپسہ (Cholera):

عموماً یہ مہلک مرض پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے پھیلاتا ہے۔

- 1 اس مرض کے جراحتی مریض کی آنون اور پا خانے میں ہوتے ہیں۔ گھیاں مریض کی قے اور فٹلے سے جراحتی اٹھا کر خوردگی اشیا کو آلوہ کر دیتی ہیں اور تدرست انسان جراحتی آلوہ اشیا کھا کر مرض کا فیکار ہو جاتا ہے۔
- 2 صاف پانی مہیا نہ ہونے کی صورت میں جراحتی آلوہ پانی سے یہ مرض تیزی سے پھیل جاتا ہے۔

علامات (Indications):

اس بیماری کے جراحتی جسم میں داخل ہونے کے بعد مرض کی پہلی علامت چند گھنٹوں سے لے کر پانچ دنوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مریض کا سر درد ہونے کے ساتھ ساتھ بھی حلا نہ گلتا ہے۔ جلد ہی وہ وقہ و قدر سے الٹیاں اور پا خانے کرنے لگ جاتا ہے۔ دست با لکل چاہوں کی چیخ کی مانند ہوتے ہیں۔ جن سے اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں عضلاتی تاذ (Cramps) پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت معمول سے کم ہو جاتا ہے اگر جسم میں پانی کی کمی کو پورانہ کیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔

روک تھام:

- 1 اپنے گھروں کو خوب صاف سفر کر کھانا چائے۔
- 2 گھیاں یا کھلی جگد، رفع حاجت کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔
- 3 بیت الٹا میں جراحتی کش دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔
- 4 کھانے پینے کی اشیا کو ڈھانپ کر کھانا چاہیے۔

- 5- دودھ انال کر دینا چاہیے۔
- 6- برف کے استعمال سے پر بیز کرنا چاہیے۔
- 7- مرٹ میں جلا ہونے پر جلا بہر گزندش دینا چاہیے۔

تپ محرقة (Typhoid)

یہ متحدی مرٹ، حرقدیپ کے جراثیم سے پھیلتا ہے۔ اس کے جراثیم پانی اور خواراک کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر چھوٹی آنٹ میں پائی جانے والی بافتوں (Lymphoid Tissues) میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جراثیم جسم میں داخل ہونے سے کر مرٹ کی چیلی علامت ظاہر ہونے تک کاعرصہ یا اکوئیشن ہجریہ (Incubation Period) 10 سے 14 دن کا ہوتا ہے۔

مرٹ پھیلنے کے اسباب:

- 1 مریض کے ساتھ بالاوسط یا بلا وسط ملادپ۔
- 2 پانی اور خواراک کے ذریعے اور بعض اوقات دودھ کے ذریعے۔
- 3 کھیاں بھی اس مرٹ کو پھیلانے میں معاون ہیں۔
- 4 مرٹ کے جراثیم سے آنودگروغبار، غذا کو آنودہ کر دیتے ہیں۔

علامات (Indications):

اس بیماری میں پہلے دو تین دنوں میں بخار معمولی نویت کا ہوتا ہے جو چوتھے روز 100 درجے "فارن ہائیٹ" تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرد و بھی ہوتا ہے۔ بخار متواتر کئی دنوں تک اسی سطح پر رہتا ہے، لیکن صبح کے وقت اس میں کچھ کمی آجائی ہے۔ اس میں قبض ہو جاتی ہے یا پاخانہ مژدوں کے شوربے کی طرح آتا ہے۔ جس میں جراثیم کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ یہ بخار قریباً تین ہفتوں میں اُتر جاتا ہے، لیکن مریض کے پاخانے اور پیشہ اور میک ہماری کے جراثیم خارج ہوتے رہتے ہیں۔

روک تھام:

- 1 ہر سال نیک لگوانا چاہیے۔
- 2 خواراک کو کھیلوں سے محفوظ رکھا جائے۔
- 3 مریض کے بول و بر از کے دفعہ کا خاص انظام کیا جائے۔
- 4 مریض کے پیڑے اور بستر جراثیم کش دوائی میں بھگونے کے بعد اعلیٰ پانی سے دھونے چاہیے۔
- 5 ذرا بخ آب رسائی کی خاص طور پر حفاظت کی جائے اور پانی میں جراثیم کش دوائی ڈالی جائے۔
- 6 سبزیاں وغیرہ جراثیم کش محلوں میں دھونے بغیر تکھائی جائیں۔
- 7 دودھ کو انال کریا "پیسٹرائزیشن" (Pasteurization) کے طریقے سے جراثیموں سے پاک کر کے استعمال کریں۔

ج	مشکل اپال پولوس کی کھلی ریز بندی ۲۶۴۷	بکریا بکریا اپال پولوس کی کھلی ریز بندی ۲۶۴۷	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے
ج2	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے
ج3	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے
ج4	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے
ج5	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے	بکریا بکریا کے تھوڑے سے بکریا کے تھوڑے سے